

تذریب الصرف

درجہ اولی کے طلبہ کے لیے علم الصرف کی تمرین پر مشتمل مفید کتاب،
جو ان شاء اللہ مطلوبہ استعداد کے حصول میں معاون و مفید ثابت ہوگی۔

ترتیب و تحقیق

اساتذہ جامعہ علوم اسلامیہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

ناشر

مجلس دعوت و تحقیق اسلامی

جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

کتاب کا نام..... تدریب الصرف
ترتیب..... اساتذہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی
سن طباعت..... شوال المکرم ۱۴۲۹ھ مطابق اکتوبر ۲۰۰۸ء
ناشر..... مجلس دعوت و تحقیق اسلامی
ملنے کا پتہ..... مکتبہ بینات جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

جامعۃ العلوم الاسلامیہ
علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
سرگنسہ پاکستان



021-4913570-4123366-4121152

فہرست مضامین

- پیش لفظ ۵
- ہدایات برائے مدرسین ۷
- تدریب بحت افعال متصرفہ
- مصادر باب نصر ۱۱
- تمرین فعل ماضی ۱۲
- تمرین فعل مضارع ۱۳
- تمرین فعل جحد منفی بلم ۱۴
- تمرین فعل مستقبل مؤکد منفی بلن ۱۴
- تمرین فعل مستقبل مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ ۱۵
- تمرین فعل مستقبل مؤکد بالام و نون تاکید خفیفہ ۱۵
- تمرین فعل امر ۱۶
- تمرین فعل نہی ۱۷
- تدریب بحت اسماء مشتقہ
- تمرین اسمائے مشتقہ ۱۹
- تدریب سالم
- ابواب ثلاثی مجرد
- تمرین ثلاثی مجرد سالم از باب نصر ۲۱
- تمرین ثلاثی مجرد سالم از باب ضرب ۲۱
- تمرین ثلاثی مجرد سالم از باب سجع ۲۲
- تمرین ثلاثی مجرد سالم از باب فتح ۲۲
- تمرین ثلاثی مجرد سالم از باب کرم ۲۳
- تمرین تصریفات و ابواب ثلاثی مجرد ۲۳
- ثلاثی مجرد سالم کے صیغوں کی تمرین ۲۴
- ابواب ثلاثی مزید بے ہمزہ وصل
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب افعال ۲۵
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب تفعیل ۲۵
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب مفاعلہ ۲۶
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب تفاعل ۲۶
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب تفاعل ۲۷
- ابواب ثلاثی مزید باہمزہ وصل
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب افعال ۲۷
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب استفعال ۲۸
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب انفعال ۲۸
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب افعال ۲۸
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب افعال ۲۹
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب افعال ۲۹
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب افعال ۳۰
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب افعال ۳۰
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب افعال ۳۱
- تمرین ثلاثی مزید سالم از باب افعال ۳۱
- ابواب رباعی مجرد
- تمرین رباعی مجرد سالم از باب فعللہ ۳۲

۵۴ تمرین ابواب وتصریفات مثال یائی

۵۶ تمرین صیغ مثال

تدریب اجوف

۵۸ تمرین ابواب وتصریفات اجوف واوی

۶۰ تمرین ابواب وتصریفات اجوف یائی

۶۲ تمرین صیغ اجوف

تدریب ناقص

۶۵ تمرین ابواب وتصریفات ناقص واوی

۶۷ تمرین ابواب وتصریفات ناقص یائی

۶۹ تمرین صیغ ناقص

تدریب لفیف

۷۲ تمرین ابواب وتصریفات لفیف مفروق

۷۴ تمرین ابواب وتصریفات لفیف مقرون

۷۶ تمرین صیغ لفیف

۷۷ تمرین صیغ ابواب مختلط

ابواب رباعی مزید بے ہمزہ وصل

۳۲ تمرین رباعی مجرد سالم از باب تفعیل

ابواب رباعی مزید باہمزہ وصل

۳۳ تمرین رباعی مزید سالم از باب افتعال

۳۳ تمرین رباعی مجرد سالم از باب افعلال

۳۴ تمرین ابواب وتصریفات سالم

۳۵ تمرین صیغ سالم

تدریب مہموز

۳۸ تمرین تصریفات ابواب مہموز الفاء

۴۰ تمرین تصریفات ابواب مہموز العین

۴۲ تمرین تصریفات ابواب مہموز اللام

۴۴ تمرین صیغ مہموز

تدریب مضاعف

۴۶ تمرین تصریفات ابواب مضاعف

۴۹ تمرین صیغ مضاعف

تدریب مثال

۵۱ تمرین ثلاثی مجرد مثال واوی از باب ضرب

۵۱ تمرین ثلاثی مجرد مثال واوی از باب سجع

۵۲ تمرین ابواب وتصریفات مثال واوی

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی الہ وصحبہ
أجمعین، أما بعد .

اسلام اور عربی زبان کا جو باہمی محکم رشتہ ہے وہ محتاج بیان نہیں، اسلام کا بنیادی پیغام ”قرآن کریم“ عربی زبان میں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وارشادات کا عظیم الشان ذخیرہ احادیث مبارکہ بھی عربی میں ہے۔

اسی طرح عربی علوم سیکھنے اور پڑھنے کے لیے صرف و نحو کی ضرورت و اہمیت بھی بیان کی محتاج نہیں، لہذا دیگر عربی علوم کی تحصیل سے قبل بقدر ضرورت صرف و نحو کی تعلیم بہت ضروری ہے، تاکہ طلباء کو قرآن و حدیث کے سمجھنے اور علوم عالیہ اور علمی ماخذ و مراجع سے استفادہ کرنے میں سہولت و آسانی ہو۔

دینی مدارس میں درس نظامی کے نصاب میں مبتدی طلباء کو صرف و نحو کے موضوع پر مختلف کتابیں پڑھانے کا معمول چلا آ رہا ہے، ان کتب کے انتخاب میں مبتدی طلباء کی ذہنی صلاحیت اور استعداد کو بہر حال مد نظر رکھا جاتا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف و نحو کے نصاب میں حسب موقع رد و بدل بھی ہوتا رہا، جس میں بنیادی سوچ اور فکر یہ رہی کہ صرف و نحو کی تعلیم کے لئے جو بھی کتاب اپنے اسلوب، حسن تعبیر اور زبان و بیان کے اعتبار سے استفادہ کرنے میں آسان محسوس ہوئی، اس کو بطور نصاب تجویز کر لیا گیا اور ایک عرصہ تک وہ کتاب زبردس رہی۔

ذوالقعدہ ۱۴۲۶ھ کو جامعہ کی مجلس تعلیمی نے جامعہ اور شاخہائے جامعہ کے درس نظامی کی تدریس سے وابستہ تمام مدرسین اور اساتذہ کو جمع کر کے دوروزہ ”مجلس محاضرہ“ کا انعقاد کیا، جس میں جامعہ کے اساتذہ کرام نے تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، بلاغت اور صرف و نحو کے طریقہ تدریس اور طرز تعلیم کی مزید بہتری و افادیت کے لئے اپنے گراں قدر تجربات کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے مفید تجاویز دیں۔

صرف و نحو کے محاضرہ میں یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ ہمارے ہاں صرف و نحو پڑھانے کے لئے جو کتابیں

نصاب میں شامل ہیں، وہ تقریباً فارسی زبان میں ہیں جبکہ فارسی زبان فی زمانہ ابتدائی طلباء کے لئے انتہائی مشکل ہے، خصوصاً درجہ متوسطہ پڑھے بغیر براہ راست درجہ اولیٰ میں داخل ہونے والے طلبہ تو اس سے بالکل ہی ناواقف ہوتے ہیں جبکہ ایسے ہی طلبہ کی تعداد نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے طلبہ پر دوہرا بوجھ پڑتا ہے، یعنی ایک طرف نامانوس زبان کا بوجھ اور دوسری طرف فن کا بوجھ، نتیجتاً فن پر مطلوبہ محنت تقسیم ہو جاتی ہے جس کی بناء پر فن میں مطلوبہ استعداد اور مہارت پیدا نہیں ہو پاتی۔

اس مشکل کے حل کے لئے صرف ونحو پڑھانے والے اساتذہ نے اپنے تجربات کی روشنی میں اس بات پر زور دیا کہ صرف ونحو کے موضوع پر اردو زبان میں ایسا درسی مواد ترتیب دیا جائے جو زبان و بیان میں انتہائی آسان ہو، تعبیر و اسلوب میں سہل ترین ہونے کے علاوہ مروجہ زبردس کتابوں کی خصوصیات کا حامل بھی ہو، چنانچہ ان اہداف کو مدنظر رکھتے ہوئے، ”علم صرف“ کے موضوع پر ایک کتاب ”تعلیم الصرف“ کے نام سے مرتب کی گئی، جس میں علم صرف کی ضروری اصطلاحات، گردانیں اور قوانین کے علاوہ ہر بحث سے متعلق تمرینات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، البتہ کتاب کا حجم کم رکھنے کے لئے تماریں کا حصہ الگ رکھا گیا ہے جو ”تدریب الصرف“ کے نام سے علیحدہ سے شائع ہوا ہے۔

جامعہ کی مجلس تعلیمی نے ”علم صرف“ کی اس کتاب کو ایک سال تک آزمائشی نصاب کے طور پر جامعہ و شاخہائے جامعہ میں درجہ اولیٰ کے طلبہ کے لیے منظور کیا تھا، اس دوران یہ کتاب اس فن کے پڑھانے والے لکئی اساتذہ کرام کی تصحیحات و ترمیمات سے بھی گزری، پھر سال کے آخر میں جامعہ کے اساتذہ کی ایک کمیٹی نے مسلسل ایک ماہ کی مشاورت کے بعد مدرسین اور دیگر اہل علم کی تجاویز کی روشنی میں اس میں مفید تبدیلیاں کیں، بعض ایسی تبدیلیاں بھی کی گئیں ہیں جو ہمارے یہاں ہندوپاک کی مروجہ درسی کتب سے مختلف ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں قدیم اور معتبر کتب کے بالکل موافق ہیں، دوران تالیف ہر مسئلے میں علم الصرف کے مستند اور معتبر مراجع و مصادر پر پیش نظر رہے، ان مراجع کی فہرست کتاب کے آخر میں موجود ہے۔

”علم صرف“ پڑھانے والے اساتذہ یا فن صرف سے فاضلانہ مناسبت رکھنے والے اہل علم کی مفید تجاویز و مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، نیز کتابت یا کسی بھی قسم کی فنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے والے اساتذہ کرام اور طلباء عظام کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔

سلیمان یوسف بنوری
نائب رئیس جامعہ

ہدایات برائے مدرسین

تمرین و مشق ہر فن کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، خصوصاً ابتدائی طلبہ کو جب تک تمرین نہ کرائی جائے، اس وقت تک ان کی سمجھ میں بات نہیں آسکتی، لہذا اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمرین کے لئے ایک مستقل کتاب ترتیب دی گئی تاکہ تمرین کے خاطر خواہ ثمرات و نتائج حاصل ہوں، تمرین کرانے والے اساتذہ کے لئے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا اور کرانا بے حد ضروری ہے:

۱- صیغہ حل کرنے کا طریقہ: جب کسی طالب علم سے صیغہ پوچھا جائے تو صیغہ کے جواب میں طالب علم کو اس کا پابند کیا جائے کہ وہ مندرجہ ذیل امور ضرور بتلائے:

الف: کہ یہ صیغہ واحد، تشنیہ، جمع میں سے کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟۔ اسی طرح غائب، حاضر، متکلم کا تعین، مثلاً: صیغہ جمع مذکر غائب۔

ب: صرف کبیر کونسی ہے؟، ماضی ہے یا مضارع وغیرہ، مثلاً: فعل ماضی مثبت معلوم۔

ج: باب کا تعین، مثلاً: ثلاثی مجرد، باب نصر ینصر۔

د: صحیح و معتل کی وضاحت، مثلاً: اجوف واوی وغیرہ۔

ه: اس صیغہ میں تعلیل ہوئی ہے کہ نہیں؟ اگر ہوئی ہے تو اس کی وضاحت کہ اصل میں کیا تھا؟ وزن کیا تھا؟

پھر کس قانون سے موجودہ شکل کی طرف منتقل ہوا ہے؟ ذیل میں مثال کے طور پر ایک صیغہ حل کیا گیا ہے:

قُلْ: صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معلوم، ثلاثی مجرد، باب نصر، اجوف واوی

اصل میں: اُقُولُ بروزن: اُفْعُلُ تھا، واو متحرک تھی، ما قبل حرف صحیح ساکن تھا تو ”یقول یبیع کے

قانون“ سے واو کی حرکت ما قبل (قاف) کو دے دی، واو ساکن ہوگئی تو اُقُولُ ہو گیا، اب اجتماع ساکنین

ہوا، واؤ اور لام کا، چونکہ واو مدہ تھی تو ”اجتماع ساکنین کے قانون“ سے اس کو حذف کر دیا تو اُقْل ہو گیا، امر کا ہمزہ وصلی مابعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے ”ہمزہ وصلی کے قانون“ سے حذف ہو گیا، تو قُلْ بروزن قُلْ ہو گیا۔

۲- استاذ کی ذمہ داری: تدریب الصرؑ کے استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمرین میں دیئے گئے مختلف مصادر کی صرف صغیر اور صرف کبیر طلبہ ہی سے نکلوائیں، خود بالکل نہ بتائیں، پھر ان گردانوں کے صیغے بھی پوچھیں، اسی طرح تمرین میں جو صیغے دیئے گئے ہیں وہ بھی طلبہ سے حل کروائیں اور اسی ترتیب سے حل کروائیں جو اوپر مذکور ہے، اور ان صیغوں سے بھی گردائیں پڑھوائی جائیں، مثلاً: صیغہ یومنون جب طالب علم حل کر دے تو اس سے کہا جائے کہ اس کی صرف صغیر پڑھے، فعل مضارع معلوم کی گردان پڑھے وغیرہ

غرضیکہ تمرین کا سارا کام طالب علم سے لیا جائے، البتہ بوقت ضرورت استاذ صاحب راہنمائی فرمائیں اور غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح کریں، طالب علم سے صیغے علی وجہ البصیرت حل کروائے جائیں، ایسا نہ ہو کہ طالب علم صیغے کی تفصیل کہیں سے رٹ کر استاذ کو سنادے، بلکہ استاذ دیکھے کہ طالب علم صیغے کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں اور اس کی تربیت دی جائے کہ ہر طالب علم اپنی ذہانت اور استعداد سے صیغوں اور گردانوں کو حل کرے، کسی اور کی مدد نہ لے، الا یہ کہ خود عاجز ہو جائے تو پھر استاذ سے پوچھ لے۔

۳- بورڈ کا استعمال: استاذ صاحب خود بھی بورڈ کا استعمال کرے، طالب علم سے بھی اس کا استعمال کرائے، جس کا طریقہ یہ ہو کہ صیغہ بورڈ پر لکھا جائے اور پھر بورڈ ہی پر طالب علم سے حل کروایا جائے، خصوصاً صیغہ کی اصل، وزن اور دیگر وضاحتیں بورڈ پر تحریر کی جائیں، تاکہ معقول چیز محسوس ہو کر اقرب الی الفہم ہو جائے۔

۴- تمرین کے لیے ہر طالب علم کے پاس کاپی ہو، جس میں صیغے حل کیے جائیں اور بوقت ضرورت طالب علم اس کی طرف رجوع کر سکے، استاذ اس بات کی بھی نگرانی کرے کہ ہر طالب علم اپنا کام خود کرے، کسی دوسرے سے نقل نہ کرے۔

۵- استاذ محترم صرف موجودہ تمارین پر اکتفا نہ کرے، بلکہ بوقت ضرورت مزید صیغوں کا اجرا بھی کرائے، تاکہ طالب علم کو صیغوں کی پہچان اور تعلیل کرنا خوب اچھی طرح آجائے۔

۶- ”تدریب الصرؑ“ میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مصنوعی صیغوں کے علاوہ زیادہ تر صیغے قرآن

مجید اور احادیث مبارکہ سے لئے گئے ہیں تاکہ تمرین کے ساتھ ساتھ طالب علم قرآن و حدیث کے مشکل صیغوں کو حل کرتا جائے جو کہ علم الصرف کا اصل مقصود ہے۔

۷- صیغہ حل کرانے میں طالب علم سے وہی بات پوچھی جائے جو اس نے ”تعلیم الصرف“ میں پڑھی ہے، مثلاً: ابھی طالب علم نے صرف مثال کے قوانین پڑھے ہیں، تو انہیں کا اجراء کروایا جائے اجوف اور ناقص کو ابھی نہ چھیڑا جائے۔

۸- طالب علم کو صیغوں کے حل کروانے کا ایسا ذوق و شوق دلایا جائے کہ جب بھی طالب علم کے سامنے کوئی لفظ آجائے تو خود بخود غیر اختیاری طور پر اس کا ذہن صیغہ حل کرنے میں مشغول ہو جائے اور وہ مشکل سے مشکل صیغہ بھی با آسانی خود حل کر سکے، اس طرح صیغوں کے حل کے ساتھ ساتھ صرف کے قوانین بھی طالب علم کو خوب یاد رہیں گے۔

۹- استاذ صاحب سے گزارش ہے کہ صیغوں کے حل میں مستند کتب کی طرف مراجعت فرمائیں اور علم الصرف کے مسلمہ قوانین کی روشنی میں صیغوں کا مناسب حل نکالیں۔

۱۰- تدریب کا مقصد طالب علم کی علمی استعداد میں رسوخ اور کمال پیدا کرنا ہے، اس لیے طلبہ کو محنت کا موقع دینے کی بجائے پہلے سے صیغوں کا حل پیش کر دینا یا شروحات شائع کر دینا، طلبہ کی استعداد بننے میں بہت بڑی رکاوٹ اور علمی انحطاط کا سبب ہے، ایسے لوگ طلبہ کے قطعاً خیر خواہ نہیں، بلکہ طلبہ کے ساتھ سراسر ظلم و ناانصافی کرنے والے شمار ہوں گے۔

لہذا تمام حضرات خصوصاً کتب ناشرین سے گزارش ہے کہ ”تدریب الصرف“ کے صیغوں کا حل ہرگز ہرگز شائع نہ کریں بلکہ تدریب الصرف پڑھانے والے اساتذہ کرام بھی ایسی تمام کامپیوں اور مسودوں کی ترویج کی سخت حوصلہ شکنی کریں جو کسی بھی صورت میں تدریب الصرف کی شرح بن سکتی ہوں اور مطلوبہ محنت کے حصول میں حائل بن رہی ہوں۔

تدرب

افعال متصرفه واسماء مشتقه

www.banuri.edu.pk

مصادر باب نصر

درج ذیل مصادر کے معانی یاد کریں۔

الخروج (نکلنا)	القعود (بیٹھنا)	السقوط (گرنا)
الدخول (داخل ہونا)	الهرب (بھاگنا)	الطلب (ڈھونڈنا)
الستر (چھپانا)	السكوت (خاموش رہنا)	القتل (قتل کرنا)
النشر (پھیلا نا)	الكتابة (لکھنا)	الحشر (جمع کرنا)
الذکر (یاد کرنا)	الرجم (سنگسار کرنا)	الحرث (کھیتی کرنا)
الخلود (ہمیشہ رہنا)	النفخ (پھونک مارنا)	الرقود (سونا)
المكث (ٹھہرنا)	الترك (چھوڑنا)	النقص (کم ہونا)
النقض (توڑنا)	البسط (پھیلا نا)	الطلوع (طلوع ہونا)

فعل ماضی کی تمرین

۱- ذیل میں دیئے گئے افعال سے فعل ماضی کی صرف کبیر پڑھیں۔

سَتَرَ	هَرَبَ	طَلَبَ
نَشَرَ	قَتَلَ	سَكَّتَ
ذَكَرَ	حَشَرَ	كَتَبَ

۲- مندرجہ ذیل صیغے حل کریں

مَا رَجَمْتُ	مَا هَرَبْتُ	ذُكِرَ
مَا سَتَرَنْ	كُتِبَتْ	حَشِرَنْ
قَتَلْتُمْ	مَا قَاتَلُوا	طَلَبُنَّ
مَا طَلَبُوا	مَا نَشَرْتُ	نَشِرَنْ
مَا قَاتَلْتُ	مَا كَتَبْتُمْ	هَرَبُوا
مَا قَاتَلْنَا	حُشِرْتُ	سَكَّتَا
كَتَبْتُ	هَرَبُوا	رُجِمَ
ذَكَرْتَا	رَجَمْتُمْ	سَتَرْتَنَّ

فعل مضارع کی تمرین

۱- ذیل میں دیئے گئے افعال سے مضارع کی صرف کبیر پڑھیں۔

يُحْرَثُ	يَسْقُطُ	يُخْرِجُ
يَذُكُرُ	يَدْخُلُ	يَخْلُدُ
يَطْلُبُ	يَنْفُخُ	يَقْتُلُ

۲- مندرجہ ذیل صیغے حل کریں

تَسْقُطُونَ	يُخْرِجَنَّ	يَدْخُلُونَ
تَقْعُدِينَ	لَا يَخْلُدُونَ	أَذْكَرُ
يُكْتَبُ	تَطْلُبَنَّ	يَنْفُخَنَّ
تَحْرُثُونَ	تَسْقُطَنَّ	لَا تَخْلُدَنَّ
يَكْتُبُونَ	أَنْفُخُ	نَحْرَثُ
نَدْخُلُ	يُرْجَمَانِ	يَذُكُرُونَ

۳- درج ذیل مصادر سے گردانیں پڑھیں

- السَّتْرُ مصدر سے فعل ماضی مثبت مجہول کی گردان پڑھیں۔
- النَّفْخُ مصدر سے فعل مضارع منفی معلوم کی گردان پڑھیں۔
- التَّرْكُ مصدر سے فعل ماضی منفی مجہول کی گردان پڑھیں۔

الکتابۃ مصدر سے فعل مضارع مثبت مجہول کی گردان پڑھیں۔

فعل جحد منفی بلم و فعل مستقبل مؤکد منفی بن کی تمرین

۱- ذیل میں دیئے گئے افعال سے جحد منفی بلم کی گردانیں پڑھیں۔

لم یُخْرِجْ	لم یَسْقُطْ	لم یرْقُدْ
لم یَمُكِّثْ	لم یَحْرُثْ	لم یَحْلُدْ
لم یَحْشُرْ	لم یَقْعُدْ	

۲- ذیل میں دیئے گئے افعال سے فعل مستقبل مؤکد منفی بن کی گردانیں پڑھیں۔

لن یَقْتُلَ	لن یَقْعُدَ	لن یَحْرُثَ
لن یَنْفِخَ	لن یَتْرُكَ	لن یَكْتُبَ
لن یَنْشُرَ	لن یَحْشُرَ	

۳- مندرجہ ذیل صیغے حل کریں

لم یَدْخُلُوا	لم یَخْرُجْنَ	لن تُرْجَمِیْ
لن أطلب	لن یَحْلُدُوا	لم تَقْعُدِیْ
لن یَحْشُرُوا	لن نُقْتَلَ	لم تَطْلُبِنَ
لن یَهْرَبَا	لم تَحْلُدَنَّ	لم تَسْقُطَنَّ
لن تَحْرُثُوا	لم نَحْرُثْ	لم أطلب
لن انْفُخْ	لم تَرْقُدُوا	لن اَمْكُثْ
لن تَحْرُثِیْ	لن اَكْتُبْ	لن اَحْشِرْ

لن یرجمَ

لن تسقطوا

تمرین فعل مستقبل مؤکد بانون تاکید ثقیلہ وخفیفہ

۱- ذیل میں دیئے گئے افعال سے فعل مستقبل مؤکد بالام ونون تاکید ثقیلہ اور فعل مستقبل مؤکد بالام ونون تاکید خفیفہ کی گردانیں پڑھیں

لِیَحْرُجَنَّ	لِیَسْقُطَنَّ	لِیَحْرُجَنَّ
لِیَقْعُدَنَّ	لِیَدْخُلَنَّ	لِیَخْلُدَنَّ
لِیَكْتُبَنَّ	لِیَطْلُبَنَّ	لِیَنْفَخَنَّ

۲- مندرجہ ذیل صیغے حل کریں

لَتَسْقُطَنَّ	لِیَخْرُجَنَّ	لِیَدْخُلَنَّ
لِیَخْرُجَنَّ	لَا حَرثَنَّ	لِیَخْلُدَنَّ
لَتَطْلُبَنَّ	لِیَنْفَخَنَّ	لَتَرَقِدَنَّ
لَتَسْقُطَنَّ	لَتَخْلُدَنَّ	لِیَكْتُبَنَّ

۳- درج ذیل مصادر سے گردانیں پڑھیں

القتل سے فعل ماضی مثبت مجہول	الترک سے فعل محمد منفی بلم مجہول
الطلب مصدر سے فعل منفی بن مجہول	الحشر سے فعل مضارع مثبت معلوم
الخروج سے فعل مستقبل بالام ونون تاکید خفیفہ معلوم	النشر سے فعل مضارع معلوم ومجہول

۴- مندرجہ ذیل صیغے حل کریں

لَا یَخْلُدُونَ	قَتَلْتَ	لَنْ تَسْقُطُوا	لَمْ یَخْرُجَنَّ	یَدْخُلُونَ
سَكَّتَا	مَا هَرَبْتَ	لَنْ یَنْفَخَنَّ	لَمْ تَقْعُدِی	لَمْ یُخْرِجْ
لَا طَلِبُنْ	لَا تَخْلُدَنَّ	یَهْرَبَانِ	طَلَبْتَنَ	مَا سَتَرَنَّ

تَسْقُطَنَّ تَحْرُثُونَ نَحْرُثُ كَتَبُوا حَشِرُوا

تمرین فعل امر

۱- درج ذیل افعال سے فعل امر کی تمام گردانیں پڑھیں۔

أَحْرَثُ أَخْلُدُ أُدْخِلُ
أُقْعِدُ اطلب انْفُخْ
انْقُصْ اُمْكُثْ أُهْرِبْ
أَتْرِكْ

۲- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے اور بحث بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

أَحْرَثْنَا لَأَحْرَثَنَّ أَخْلُدُوا لَأَدْخُلَنَّ
أُدْخِلِي لَيْدُخُلَنَّ أُقْعِدِي لَيَنْفُخَنَّ
لَتَطْلُبَنَّ لِيَهْرَبَنَّ لَيُخْلِدَنَّ لَأَطْلِبَنَّ
لَيَسْقُطَنَّ لَيَقْعَدَنَّ لَيَتْرُكَنَّ لَأَمْكُثَنَّ
أَكْتُبِي أَدْخُلَا أُقْعِدَنَّ أُمْكُثَا

۳- درج ذیل مصادر سے گردانیں پڑھیں

السقوط سے فعل ماضی مثبت معلوم
القتل سے فعل جحد منفی بلم مجهول
الطلب سے فعل امر حاضر معلوم
النشر سے فعل امر غائب معلوم
النفخ سے فعل جحد منفی بلم معلوم
النقض سے فعل مضارع مثبت مجهول
الهروب سے فعل مستقبل باللام ونون تاکید ثقيلہ معلوم
الخروج سے فعل مستقبل باللام ونون تاکید خفيفہ معلوم

تمرین فعل نہی

۱- درج ذیل افعال سے فعل نہی کی تمام گردانیں پڑھیں۔

لَا تَحْرُثُ	لَا تَخْلُدُ	لَا تَدْخُلُ
لَا تَقْعُدُ	لَا تَقْتُلُ	لَا تَنْفُخُ
لَا تَنْقُصُ	لَا تَمُكُّ	لَا تَهْرُبُ
لَا تَتْرُكُ		

۲- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے اور گردان بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

لَا تَحْرُثْنَا	لَا يَحْرُثُنَّ	لَا تَخْلُدُوا	لَا تَدْخُلِي
لَا أَدْخُلُ	لَا يَدْخُلَنَّ	لَا تَقْعُدُ	لَا يَنْفُخَنَّ
لَا تَطْلُبُنَّ	لَا يَهْرَبَانَّ	لَا تَخْلُدُنَّ	لَا يَقْتُلَنَّ
لَا تَسْقُطَنَانَّ	لَا تَقْعُدِنَّ	لَا تَتْرُكَنَّ	

۳- درج ذیل مصادر سے گردانیں پڑھیں

الحرث سے فعل ماضی منفی معلوم	الخلد سے فعل نفی مؤکد بلن معلوم و مجہول
القتل سے فعل مضارع معلوم و مجہول	النقص سے فعل مستقبل بالام و نون تاکید ثقیلہ معلوم
الطلب سے فعل امر غائب معلوم	الهروب سے فعل امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ
النشر سے فعل نہی حاضر مجہول	الخروج سے فعل نہی غائب معلوم بانون تاکید ثقیلہ

تمرین تصریفات اسماء مشتقہ

۱- درج ذیل مصادر سے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم آلہ کی صرف کبیر پڑھیں۔

الْحَرْتُ،	الْخُلْدُ،	الْقَتْلُ،	النَّقْضُ،	الطَّلَبُ،
الْهَرَبُ،	النَّشْرُ،	الْخُرُوجُ،	بقیہ مصادر	

۲- ذیل میں دیئے گئے صیغے حل کریں۔

حَارِثَانِ	خَالِدِينَ	مَقْتُولُونَ	مَنْقُوضٌ	طَلَبَةٌ
هَارِبَاتٌ	نَوَافِحُ	أَنَافِخُ	مَخْرَجٌ	مَقَاعِدُ
حُرَاتٌ	فَرِحِينَ	قُدُوسَةٌ	قَتْلٌ	

تمرین

۱- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الستر سے فعل مضارع منفی مجہول	الطلب سے فعل ماضی منفی معلوم
النقض سے فعل امر مجہول کی تمام گردانیں	القتل سے فعل امر معلوم کی تمام گردانیں
الترک سے فعل ماضی کی تمام گردانیں	النشر سے اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم تفضیل
	البسط سے فعل مستقبل مؤکد باللام ونون تاکید کی تمام گردانیں

۲- درج ذیل صیغے حل کریں

مَطَالِعُ	يُقْتَلُونَ	دَخَلُوا	يُكْتَبُ	تَطْلُبِينَ
أَنْقَصُ	نَصِيرٌ	كَافِرٌ	الرَّزَاقُ	يَثْبُتُ
تَكْفُرُونَ	تَطَّلِعُ	مَسْتَوْرٌ	نَقَضَتْ	مِنْشَارٌ
مَحْشُورَةٌ	حَاشِرِينَ	مَبْسُوطَتَانِ	لِيَنْصُرَنَّ	أَنْصَرُ

ہدایت برائے استاذ محترم: طلبہ کو ابتداء سے اب تک پڑھائے گئے تمام اسباق کی گردانوں کی خوب مشق کرائی جائے صیغوں کی پہچان اور ترجمہ کی تمرین کروائی جائے، قرآن مجید اور احادیث سے مختلف صیغے نکلوائے جائیں۔

تدریب
تصریفات ابواب و صیغ
سالم

www.bairi.edu.pk

ثلاثی مجرد، سالم، باب نصر کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

المکث (ٹھہرنا) الخروج (نکلنا) الدخول (داخل ہونا) القعود (بیٹھنا)

الطلب (طلب کرنا) الاستر (چھپانا) النقص (توڑنا) النشر (پھیلانا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الستر مصدر سے اسم فاعل اور اسم مفعول الخروج مصدر سے اسم تفضیل

النقص مصدر سے فعل نفی۔ حجر بلم معلوم و مجهول الطلب مصدر سے فعل امر حاضر معلوم

۳- درج ذیل صیغے حل کریں

مَكْتُمٌ	نَمَكْتُ	لَا يَمْكُتُونَ	أَمَكْنَا	مَا كَثِينَ	لِيَمْكُتَانَا
قَتَلُوا	نَخْرُجُ	لَا تَخْرُجِينَ	لِيَخْرُجَنَا	مَخْرَجٌ	أَخْرَجَانَا
قَعَدْنَا	لَا نَقْعُدُ	لَا تَقْعُدُوا	أَقْعُدَنَّ	مَقْعُدٌ	قَاعِدَاتٌ

ثلاثی مجرد، سالم، باب ضرب سالم کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں

العصر (نچوڑنا) الحلق (مونڈنا) السرقة (چوری کرنا) الصرف (پھیرنا)

الهلاك (بتاہ ہو جانا) العدل (انصاف کرنا) الغلب (غلبہ کرنا) الكسب (کمانا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

العصر مصدر سے فعل مضارع معلوم و مجهول الحلق مصدر سے فعل امر حاضر معلوم و مجهول

الصرف مصدر سے فعل نہی غائب معلوم الغلب مصدر سے اسم فاعل اور اسم مفعول

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

مَاعَصْرُوا	لَا تَعَصِرُ	لِيَعَصِرُنَا	عَاصِرُونَ	إِعْصِرُ	عَاصِرَانِ
-------------	--------------	---------------	------------	----------	------------

حَلَقْنَا يَحْلِقُونَ لَا تَحْلِقُوا لَا يَحْلِقُونَ لَمْ تَحْلِقْ إِحْلِقْ
صَرَفْتِ يَصْرِفَانِ لَنْ يَصْرِفُوا لِيَصْرِفَنَّ مَصْرِفٌ صَارِفُونَ

ثلاثی مجرد، سالم، باب سمع کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الركوب (سوار ہونا) الحمد (تعریف کرنا) الشهادة (گواہی دینا) اللبث (ٹھہرنا)
الضحك (ہنسا) العلم (جاننا) الفهم (سمجھنا) القدوم (آنا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الفهم مصدر سے فعل مضارع معلوم و مجهول الحمد مصدر سے ماضی معلوم و مجهول
الشهادة مصدر سے فعل نفی مؤکد معلوم و مجهول العلم مصدر سے اسم تفضیل

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

رَكِبْتُمْ لَيْرَكِبَنَّ اِرْكَبَنَّ مَرَكَبٌ لَمْ اُرْكَبْ
ضَحِكُوا يَضْحَكُونَ لَنْ نَضْحَكَ لَتَضْحَكَنَّ اِضْحَكُوا
عَلِمُوا لَا تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمَا اَعْلَمُونَ اِعْلَمَنَّ

ثلاثی مجرد، سالم، باب فتح کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الجرح (زخمی کرنا) المنع (روکنا) الطبخ (پکانا) الخلع (اتارنا)
القلع (اکھاڑنا) الجحود (دانستہ انکار کرنا) الذهب (جانا) القطع (کاٹنا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الجرح سے ماضی مثبت معلوم المنع سے فعل مستقبل بالام و نون تاکید خفیفہ معلوم

الطبخ سے امر حاضر معلوم بانون تاکید خفیفہ الخلع سے اسم فاعل و اسم مفعول اور اسم ظرف

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

جُرِحْتُمْ مُنِعْنَا طَبَخْنَا لَا تَخْلَعُ مِقْلَاعٌ جَحَدُوا

مَذْهَبٌ تَذْهَبِينَ مَقْطُوعٌ لَنْ يَجْرَحَنَّ مَاقَلَعُوا مَا نَعِينِ
إِطْبَحِي كَيْمَنَعَنَّ أَمْنَعُونَ ذَاهِبُونَ إِخْلَعِي مَمْنُوعٌ

ثلاثی مجرد، سالم، باب کرم کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

القرب (نزدیک ہونا) البعد (دور ہونا) البصارة (بینا ہونا) الكثرة (زیادہ ہونا)
الصعوبة (مشکل ہونا) الشرافة (نیک ہونا) الحرام (حرام ہونا) النظافة (صاف ہونا)

۲- درج ذیل گردا نہیں پڑھیں

الصعوبة سے فعل مضارع مجرد منفی بلم معلوم
البصارة سے فعل مستقبل بانون تاکید
ثقيلہ معلوم

القرب سے صفت مشبہ البعد مصدر سے اسم تفضیل کی گردان

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

قَرِيبٌ بَعُدْتُ بَصُرْنَا تَكْثُرِينَ لَا تَصْعَبَا لِأَشْرَفَنَّ
أَحْرَمٌ مِئْظَفَةٌ لِيَقْرُبَنَّ بَعُدَنَّ لَنْ تَحْرَمَا لِانْكَثُرُ
لَمْ تَبْصُرُوا أَشْرَفَا مِبْصَارٌ لِيَبْعُدَنَّ أَنْظَفِي صُعْبِي

تمرین تصریفات ابواب ثلاثی مجرد سالم

۱- درج ذیل گردا نہیں پڑھیں

”الْخُرُوجُ“ سے مضارع منفی معلوم
”السَّرِيقَةُ“ سے منفی مؤکد بلن معلوم
”الذَّهَابُ“ سے نہی حاضر معلوم
”الْكُتُبُ“ سے نفی مجرد بلم معلوم
”الْخَلْعُ“ سے امر حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ
”الشَّهَادَةُ“ سے فعل مستقبل بالام ونون تاکید ثقیلہ معلوم
”الصَّحْكُ“ سے امر حاضر معلوم

”الْعُومَةُ“ سے اسم ظرف
 ”الْقُدُومُ“ سے امر غائب معلوم
 ”النَّظَافَةُ“ سے فعل مضارع مثبت معلوم
 ”الْعُدُلُ“ سے اسم فاعل

ثلاثی مجرد، سالم کے صیغوں کی تمرین

درج ذیل صیغے حل کریں

لَنْ أَكْسِبَ	صَرَفْتِ	ضَحِكُوا	لَا يَمْكُثُونَ	إِعْصِرُ
أَمْكِنَا	لِيَمْكُثَنَّانَ	سُتِرُوا	نَخْرُجُ	لَا تَخْرُجِينَ
لِيَخْرُجَنَّانَ	أَخْرَجَانِ	قَعَدْنَا	لَا نَقْعُدُ	لَا تَقْعُدُوا
أَقْعُدَنَّانَ	لَنْ نَضْحَكَ	قَاعِدَاتُ	لَا تَعْصِرُ	عَاصِرُونَ
لَا تَصْعَبَا	عَاصِرَانِ	لَا تَعْلَمَا	حَلَقْنَا	لِيَعْصِرَنَّانِ
مَرَكَبٌ	يَحْلِقُونَ	مَا كَثِيرٌ	لَا تَحْلِقُوا	رَكِبْتُمْ
لَا يَحْلِقُونَ	مَخْرَجٌ	لَمْ تَحْلِقْ	إِحْلِقُ	مَكَثْتُمْ
يَصْرِفَانِ	لَنْ يَصْرِفُوا	لِيَصْرِفَنَّ	مَصْرِفٌ	صَارِفُونَ
لَيَرْكَبَنَّانِ	إِرْكَبَنَّانِ	لَمْ أَرْكَبْ	نَمَكْتُ	يَضْحَكُونَ
مَاعَصَرُوا	لَيَمْنَعَنَّانِ	لَتَضْحَكَنَّ	إِضْحَكُوا	عَلِمُوا
لَا تَعْلَمُونَ	مَقْعَدٌ	إِعْلَمَنَّ	جُرِحْتُمْ	مُنِعْنَا
طَبَخَنَّانِ	لَا تَخْلَعُ	مِقْلَاعٌ	جَحَدُوا	مَذْهَبٌ
تَذْهَبِينَ	مَقْطُوعٌ	لَنْ يَجْرَحَنَّ	مَاقَلَعُوا	مَانِعِينَ
إِطْبَخِي	أَمْنَعُونَ	أَعْلَمُونَ	ذَاهِبُونَ	إِخْلَعِي
مَمْنُوعٌ	قَرِيبٌ	بُعْدَتُ	بَصْرْنَا	تَكْثُرِينَ
لَا شَرْفَنَّانِ	أَحْرَمٌ	مِنْظَفَةٌ	لَيُقْرَبَنَّانِ	بُعْدَنَّانِ
لَنْ تَحْرَمَنَا	لَا نَكْثُرُ	لَمْ تَبْصُرُوا	أَشْرَفَا	مُبْصَرًا

لَيُعَدُّنَا ۱۱ انْظُرِي ۱۲ صُعْبِي ۱۳

ثلاثی مزید، سالم، باب افعال کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الارهاب (ڈرانا) الاذہاب (لے جانا) الاسکات (چپ کرانا) الانبات (اگانا)
الانصات (چپ رہنا) الاخراج (نکالنا) الابعاد (دور کرنا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الاذہاب سے فعل امر حاضر معلوم
الانبات سے فعل مستقبل بالام ونون تاکید خفیفہ معلوم
الاکرام سے فعل ماضی منفی معلوم
الاسکات سے فعل نہی غائب معلوم

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

مُسْكَةٌ لَيَذْهَبَنَّ مُرْشِدَيْنِ يَنْبِتُ اَنْصَتُوا لَمْ اُخْرِجْ
اَبَعَدَ تُسْكِتَيْنِ مَا اَكْرَمَتْ مُخْرِجَانِ لَيُعَدُّنَّ اَذْهَبِي
اَرَشَدَنَّ لَا تَنْبِتَنَّ مُنْصِتَاتٌ لَمْ تُبْعِدِي لَا يَكْرِ مَنَا لَنْ نُرْشِدَ

ثلاثی مزید، سالم، باب تفعیل کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الترغیب (رغبت دلانا) التعذیب (عذاب دینا) التقریب (نزدیک کرنا) التکذیب (جھٹلانا)
التصدیق (سچا ماننا) التصریح (ظاہر کرنا) التحقیر (خوب ذلیل کرنا) التذکیر (یاد دلانا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الترغیب سے فعل ماضی مثبت مجہول
التقرب سے اسم فاعل اور اسم ظرف
التعذیب سے فعل مضارع معلوم و مجہول
التکذیب سے فعل امر غائب معلوم بانون تاکید ثقیلہ

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

لَا يُذَكِّرُونَ	مَا حَقَّرْنَا	لِيَصْرَحَنَّ	مُصَدِّقِينَ	تُكذِّبَانِ	مُقَرَّبٌ
لَنْ تُعَدُّوْا	لَتُرْعَبَنَّ	رَغْبًا	لِتَذَكَّرْنَ	لَا تُعَدَّبُ	لَا تُحَقِّرُوا
قَرَّبًا	مُصْرَحَاتٍ	كَذَّبُوا	مَا صَدَّقْتُ	لَمْ أُصْرِحْ	لِيَصْرَحَنَّ

ثلاثی مزید، سالم، باب مفاعله کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

المحاربة (جنگ کرنا)	المطالبة (مانگنا)	المعاقبة (سزا دینا)	المباعدة (دور کرنا)
المعاقبة (ملامت کرنا)	المخادعة (فریب دینا)	المخالطة (ساتھ رہنا)	المتابعة (موافقت کرنا)

۲- درج ذیل گروا میں پڑھیں

المحاربة سے ماضی منفی مجہول	المطالبة سے فعل منفی بلن معلوم و مجہول
المعاقبة سے فعل نہی غائب معلوم	المباعدة سے فعل امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

مُحَارِبَانِ	لِيُطَالِبَنَّ	مُعَاقِبِينَ	يُبَاعِدُ	عَاتِبُوا	لَمْ أُخَادِعْ
خَالِطٌ	لَنْ تُتَابَعَ	تُحَارِبِينَ	مَا طَالَبْنَا	لِيُعَاقِبَانِ	بَاعِدِي
مُعَاقِبُونَ	يُخَادِعُونَ	لَمْ نُخَالِطْ	لَا تُعَاتِبَا	لَا تُعَاتِبَانِ	مُطَالِبَاتٌ

ثلاثی مزید، سالم، باب تفعّل کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

التقبل (قبول کرنا)	التجنب (دور ہونا)	الترشح (ٹپکنا)	التفسخ (پھٹنا)
التلطيخ (آلودہ ہونا)	التجرد (برہنہ ہونا)	التفكر (سوچنا)	التعلم (سیکھنا)

۲- درج ذیل گروا میں پڑھیں

التقبل سے فعل ماضی معلوم و مجہول	التجنب سے فعل نفی مجرد بلن معلوم و مجہول
الترشح سے فعل امر حاضر معلوم	التعلم سے اسم فاعل اور اسم مفعول

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

تَقَبَّلَ	يَتَحَبَّبَانِ	مُتَرَشِّحٌ	مَا تَفَسَّخُوا	لَمْ تَتَلَطَّخْ	لَا أَتَجَرَّدُ
لَنْ تَتَفَكَّرَا	لَنْتَعَلَّمَنَّ	تَفَكَّرُ	لِتَتَفَسَّخَا	لَا يَتَجَرَّدَنَّ	تَجَنَّبَنَّ
تَرَشَّحْتَا	لِيَتَلَطَّخَانِ	مُتَفَسِّخُونَ	لَا يَتَجَنَّبُ	لَمْ تَرَشَّحَا	لِتَتَعَلَّمَنَّانِ

ثلاثی مزید، سالم، باب تفاعل کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

التقابل (ایک دوسرے کے سامنے ہونا) التعاقب (ایک دوسرے کے پیچھے ہونا) التعاتب (ایک دوسرے کو عتاب کرنا)
التباعد (ایک دوسرے سے دور ہونا) التحاسد (ایک دوسرے سے حسد کرنا) النفاخر (آپس میں فخر کرنا)

۲- درج ذیل گردا میں پڑھیں

التقابل سے فعل مضارع مثبت معلوم و مجہول التعاقب سے اسم مفعول اور اسم ظرف
التعاتب سے فعل مضارع منفی معلوم و مجہول التباعد سے فعل نہی حاضر و غائب معلوم

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

مُتَقَابِلُونَ	تَتَعَاقَبُ	لَا تَتَعَاتَبِي	لَا يَتَعَاقَبُونَ	تَبَاعَدْتُ	لَمْ نَتَحَاسَدْ
لَنْ أَتَحَاسَدَ	تَفَاخَرُوا	لِيَتَقَابَلَا	لِتَتَقَابَلَانِ	مَا تَعَاتَبْنَا	لَا يَتَبَاعَدُونَ
تَعَاقَبُ	لِيَتَفَاخَرُوا	مُتَبَاعِدَانِ	مُتَعَاتِبِينَ	لِيَتَقَابَلَنَا	تَقَابَلُوا

ثلاثی مزید، سالم، باب افتعال کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الاقتراب (نزدیک ہونا) الاغتسال (نہانا) الاكتساب (کمانا) الالتهاب (بھڑکنا)
الانتخاب (چھاٹنا) الاعتماد (بھروسہ کرنا) الاحتراز (پرہیز کرنا) الاستماع (سننا)

۲- درج ذیل گردا میں پڑھیں

الاقتراب سے فعل ماضی منفی معلوم و مجہول الاغتسال سے فعل جہد منفی بلم معلوم و مجہول
الاکتساب سے فعل امر غائب مجہول الالتهاب سے فعل مستقبل باللام و نون تاکید خفیفہ معلوم

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

اِسْتَمَعُوا مُغْتَسِلٌ مَا احْتَرَزُوا لِيُغْتَسِلَنَّ اِقْتَرَبْتُ مُنْتَحَبَاتٌ
 لَنْ اَعْتَمِدَ لَمْ تَلْتَهَبُ لَيْكُنْتَسِبَنَّ لَيْقَتَرِبَنَّ لَا نَلْتَهَبُ تَنْتَحِبُونَ
 لِاحْتَرَزَنَّ اِسْتَمَعَنَّ لِنَكْتَسِبُ يَغْتَسِلُ مَعْتَمِدِينَ مُلْتَهَبُونَ

ثلاثی مزید، سالم، باب استفعال کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الاستخراج (نکالنا) الاستبشار (خوش ہونا) الاستحقال (حقیر سمجھنا) الاستغفار (بخشش چاہنا)

الاستخلاف (خلیفہ بنانا) الاستبدال (بدل دینا) الاستکمال (پورا کرنا) الاستفسار (پوچھنا)

۲- درج ذیل گردا نہیں پڑھیں

الاستخراج سے فعل نہی حاضر معلوم الاستبشار سے فعل مضارع منفی معلوم و مجہول

الاستحقال سے فعل ماضی مثبت مجہول الاستغفار سے فعل امر حاضر معلوم و مجہول

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

اُسْتُخْرِجَ اِسْتَبْشَرَ اِسْتَحْقَرَ اِسْتَبْشَرَ اِسْتَحْقَرَ اِسْتَبْشَرَ اِسْتَحْقَرَ
 لَنْ تَسْتَكْمِلَا لَنْ تَسْتَفْسِرَنَّ لَنْ تَسْتَحْرِجَا لَنْ تَسْتَحْقِرَنَّ لَنْ تَسْتَحْقِرَنَّ لَنْ تَسْتَفْسِرَنَّ
 اِسْتَحْقَرَتَا لَيْسَتْخَلْفَنَّ اِسْتَحْمَلُونَ لَيْسَتْخَلْفَنَّ لَيْسَتْخَلْفَنَّ لَيْسَتْخَلْفَنَّ لَيْسَتْخَلْفَنَّ لَيْسَتْخَلْفَنَّ

ثلاثی مزید، سالم، باب النفعال کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الانقلاب (پلٹنا) الانسراح (کھلنا) الانعكاس (الٹنا) الانصراف (لوٹنا)

الانكشاف (کھلنا) الانحراق (پھٹنا) الانطلاق (چلنا) الانفصال (جدا ہونا)

۲- درج ذیل گردا نہیں پڑھیں

الانقلاب سے فعل نفی-حاضر معلوم الانسراح سے فعل امر غائب معلوم بانون تاکید ثقیلہ

الانكشاف سے فعل ماضی مثبت الانعكاس سے اسم فاعل اور اسم ظرف

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

لَيْتَقَلْبَانًا لَمْ تَنْشَرِحَا لَا يَنْعَكِسُ مُنْصَرِفُونَ لَيْنُكَشِفَانًا اِنْتَلَقْنَا
 اِنْخَرَقَ اِنْفَصَلَ يَنْخَرِقَانِ مُنْطَلِقٌ مَا اِنْخَرَقُوا لَمْ تَنْقَلِبْ
 لَا اَنْصَرِفُ لَنْ تَنْكَشِفُوا لَنْنَطَلِقُ اِنْتَلِقِي تَنْفَصِلِينَ مَا اَنْصَرَفْتُ

ثلاثی مزید، سالم، باب افعال کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر اور دیگر گردانوں کی تمرین کریں

الاصفرار (زررد ہونا) الاخضرار (سبز ہونا) الاسمرار (گندم گوں ہونا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الاصفرار سے فعل نفی جہد بلم معلوم الاخضرار سے فعل امر غائب معلوم بانون تاکید ثقیلہ

الاسمرار سے فعل امر حاضر معلوم الاصفرار سے اسم فاعل اور اسم ظرف

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

اِصْفَرَّتْ يَخْضِرَانِ مُخْضِرِينَ اِسْمَرَتْ تَسْمُرُ لَمْ تَسْمُرْ
 لَا تَسْمُرُ اِسْمَرَّ مُسْمِرُونَ مُخْضِرَاتٌ مُصْفِرِينَ اِصْفَرُّ
 لَيُصْفِرُنَّ اِصْفَرْنَ لَا يَخْضِرُونَ لَا تَسْمُرُ اِخْضَرْنَا مَسْمَرَةٌ

ثلاثی مزید، سالم، باب افعیال کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر اور دیگر گردانوں کی تمرین کریں

الاحميرار (بندرتی سرخ ہونا) الاشهباب (گھوڑے کا تدریجاً سفید ہونا) الاسميرار (گندم گوں ہونا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الاحميرار سے فعل نفی جہد بلم معلوم الاشهباب سے فعل نفی غائب معلوم

الاسميرار سے فعل امر غائب معلوم الاحميرار سے اسم فاعل اور اسم ظرف

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

اِحْمَارَرْنَ مُحْمَارُونَ لَمْ يَشْهَابِينَ اِسْمَارَّ يَشْهَابُ اِحْمَارَرْتُمْ

لَمْ تَحْمَارِي لَاتَحْمَارِي لَنْ يَسْمَارُوا لَيْسْمَارًا إِشْهَابٌ لَيْشَاهِبُوا
لَاتَسْمَارِينَ مُسْمَارِينَ أَسْمَارٌ لَاتَحْمَارِي لَاتَحْمَارٍ مُسْمَارٌ

ثلاثی مزید، سالم، باب افعیعال کی تمرین

درج ذیل مصادر سے صرف صغیر اور دیگر گردانوں کی تمرین کریں

الاخلیلاق (کپڑے کا پرانا ہونا) - الاملیلاح (پانی کا کھارا ہونا) - الاخریراق (کپڑے کا پھٹ جانا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الاخلیلاق سے فعل نفی جہد بلم معلوم الاملیلاح سے فعل امر غائب معلوم بانون تاکید ثقیلہ

الآخریراق سے فعل امر حاضر معلوم الاخریراق سے اسم فاعل اور اسم ظرف

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

مَا اَخْلَوْلَقَ لَمْ يَخْلَوْلَقَا لَتَمْلَوْلَحَنَّ اِخْرُورُقُوا لَنْ تَمْلَوْلِحِي لَاتَخْرُورُقِي
مُخْلَوْلَقِينَ لَمْ تَمْلَوْلِحُوا اِمْلَوْلِحِي اِخْرُورَقَنَّ يَخْلَوْلِقَنَّ لَاتَخْرُورِقَنَّ
اِخْرُورُقِي لِيَمْلَوْلِحَنَّ لَاتَخْرُورِقَنَّ اِمْلَوْلِحُ مُمْلَوْلِحِينَ لَاتَمْلَوْلِحِي

ثلاثی مزید، سالم، باب افعال کی تمرین

درج ذیل مصادر سے صرف صغیر اور دیگر گردانوں کی تمرین کریں

الاخرواط (لکڑی کا چھیلنا) الاعلواط (اونٹ کی گردن میں قلابہ باندھنا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الاخرواط سے فعل منفی مؤکد بلن معلوم الاخرواط سے فعل امر غائب معلوم

الاعلواط سے فعل امر حاضر معلوم الاعلواط سے اسم فاعل اور اسم ظرف

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

اِخْرَوَّطَتْ يَخْرَوَّطُونَ لَاتَخْرَوَّطِينَ لَنْ يَخْرَوَّطُوا لِيَخْرَوَّطَنَّا

مُعْلَوِّطِينَ لَا تَعْلَوِّطِي لَا تَعْلَوِّطُونَ لَنْ أَعْلَوِّطَ مُعْلَوِّطِينَ
يَعْلَوِّطَنَّ لَا تَحْرَوِّطَنَّ

ثلاثی مزید، سالم، باب افعل کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر اور دیگر گردانوں کی تمرین کریں

الازمل (کیڑا اوڑھنا) الاضرع (گڑگڑانا) الاذکر (یاد کرنا) الاجنب (بچنا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الازمل سے فعل مضارع معلوم الاضرع سے فعل امر غائب معلوم

الاذکر سے فعل امر حاضر معلوم الاجنب سے اسم فاعل اور اسم ظرف

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

أَزْمَلَنَّ نَزَمَلُ مُزَمَلٌ لَنْ يَزَمَلُوا لَيَزَمَلَنَّ لَا تَزَمَلِي
مُضَرَّعَاتُ لَا تُضَرَّعَنَّ اِضْرَعُوا لَيَضْرَعَنَّ لَنْ اَضْرَعَ مُضَرَّعِينَ
مُدَّكِّرِينَ مُدَّكِّرِينَ يَدَّكِّرُونَ لَمْ تَحْنَبِي اِحْنَبَنَّ لَا تَحْنَبُ

ثلاثی مزید، سالم، باب افاعل کی تمرین

درج ذیل مصادر سے صرف صغیر اور دیگر گردانوں کی تمرین کریں

الادارک (تلائی کرنا) الاشابه (ہم شکل ہونا) الاصلاح (مصالحت کرنا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

الادارک سے فعل مضارع معلوم الاشابه سے فعل امر غائب معلوم

الاصالح سے فعل امر حاضر معلوم الاصلاح سے اسم فاعل اور اسم ظرف

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

يَدَّارِكُنَّ اِدَّارَكُوا مُدَّارَكَاتُ لَمْ تَدَّارِكِي لَيَدَّارِكُنَّ اِدَّارَاكَ

إِشَابَهُنَّ مُشَابَهُوْنَ تَشَابَهُنَّ لِنَ إِشَابَهُ لِشَابَهُيْ لَا تَشَابَهُ
تَصَالِحِينَ لِنَ يَصَالِحْنَ لَا تَصَالِحِيْ لَا تَصَالِحُونَ مُصَالِحَاتُ إِصَالِحْنَ

رباعی مجرد، سالم باب فعللہ کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الزعفرۃ (زعفران سے رنگنا) البعثرۃ (بکھیرنا) العسکرۃ (خیمہ زن ہونا) الحملقۃ (گھور کے دیکھنا)
البرقۃ (برق اور ہنا) الفرقۃ (چٹھانا) الزخرفۃ (سجانا) القنطرۃ (ڈھیروں مال جمع کرنا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

البرقۃ سے فعل نہی غائب کی گردان
البعثرۃ سے فعل مضارع معلوم
العسکرۃ سے فعل منفی بن معلوم
القنطرۃ سے فعل امر حاضر معلوم

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

لَا تَزُحِرْفُ لَا يُعْعِرَانُ مُفْرَعَتَانِ قَنْطَرْتُمَا يُزَعْفِرُونَ عَسْكَرٌ
لَمْ تُبْرِقْ لَتَحْمَلَقَا لِنَ نَزْحِرْفَ مُزَعْفِرَانِ مَا بَعَثَرْنَا لِيُقْنَطِرَانِ
لَتُقْنَطِرَانِ لَا يُزْحِرْفَا عَسْكَرَتِ لَتُبْرِقَنَّ مُعَسْكَرٌ حَمَلَقَا

رباعی مزید، سالم، باب تفعّل کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

التزندق (بے دین ہونا) التبختر (جھومنا) التعصفر (زر دہونا) التعترف (غصہ ظاہر کرنا)
التصعلک (غریب ہونا) التسربل (کرتا پہننا) التبعثر (بکھیرنا)

۲- درج ذیل گردانیں پڑھیں

التبختر سے فعل مضارع معلوم
التزندق سے فعل امر حاضر معلوم
التعترف سے فعل نفی مؤکد بن معلوم
التعصفر سے فعل نہی حاضر معلوم

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

مُتَزِنِدَقَان	لَيْتَبَخْتَرَنَّ	مُتَعَصِّفِرِينَ	تَتَعْتَرَفُ	تَسْرَبُلْنَا	مُتَعَصِّفِرَةً
لَنْ تَبْعَثَرَا	لَيْتَبْعَثَرَانَّ	مَا تَزْنُدُقْنَا	تَبْحَثَرَنَّ	لَا تَعْتَرَفُ	مُتَسْرَبُلُونَ
مُتَبَحِّثَرٌ	لَيْتَعْتَرَفُنَا				

رباعی مزید، سالم باب افعلال کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الاسلنطاح (لیٹ جانا) الابرنشاق (خوش ہونا) الادرنفاق (تیز چلنا)

۲- درج ذیل گردا نہیں پڑھیں

الاسلنطاح سے فعل مضارع معلوم الابرنشاق سے فعل نفی مؤکد بن معلوم

الادرنفاق سے فعل نہی غائب معلوم

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

إِسْلَنْطُحُ	مُبْرَنْشِقُونَ	مَا اذْرَنْفَقْنَا	لَتَسْلَنْطِحَنَّ	لَنْبَرَنْشِقَنَّ
لَا يذْرَنْفِقَا	إِبْرَنْشِقَا	إِبْرَنْشِقَا		

رباعی مزید، سالم باب افعلال کی تمرین

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الاجلعباب (بستر پر دراز ہونا) الاسلحباب (راستہ کا سیدھا ہونا) الازمہرار (سخت سردی والا ہونا)

الاکفہرار (تیوری چڑھانا) الاطلخمام (تکبر کرنا)

۲- درج ذیل گردا نہیں پڑھیں

الاجلعباب سے فعل ماضی مثبت و منفی معلوم الاسلحباب سے فعل مضارع معلوم

الازمہرار سے فعل منفی بن معلوم الاکفہرار سے فعل امر حاضر معلوم

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کے صیغے، وزن اور صرف کبیر کا نام بتائیں نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔

لَا جُلْعَبَّ مُسَلِحَبَّةٌ لِيَزْمَهْرُرَنَّاَ مُكْفَهْرٌ مُطْلَحِمُونَ

ابواب سالم کی صرف کبیروں کی تمرین

درج ذیل گردانیں پڑھیں

الاذھاب سے فعل امر حاضر معلوم	الاکرام سے فعل ماضی منفی معلوم
الاستخراج سے فعل نہیں حاضر معلوم	الادارک سے فعل مضارع منفی معلوم
الاصالح سے فعل امر حاضر معلوم بانون تاکید خفیفہ	الشہادۃ مصدر سے فعل نفی مؤکد معلوم و مجہول
الاستغفار سے فعل امر حاضر معلوم و مجہول	الاشابہ سے فعل منفی بلن معلوم
الخلع سے اسم فاعل و اسم مفعول اور اسم ظرف	الترغیب سے فعل ماضی مثبت مجہول
المحاربة سے ماضی منفی مجہول	الطبخ سے امر حاضر معلوم بانون تاکید خفیفہ
الاجلعباب سے فعل ماضی منفی مثبت معلوم	التقریب سے اسم فاعل اور اسم ظرف
البعء مصدر سے اسم تفضیل کی گردان	التقبل سے فعل ماضی معلوم و مجہول
الانبات سے فعل مستقبل بالام ونون تاکید خفیفہ معلوم	القرب سے صفت مشبہ
الحمد مصدر سے ماضی معلوم و مجہول	الاستحقار سے فعل ماضی مثبت مجہول
المطالبة سے فعل منفی بلن معلوم و مجہول	الفہم مصدر سے فعل مضارع معلوم و مجہول
المنع سے فعل مستقبل بالام ونون تاکید خفیفہ معلوم	الاسکات سے فعل نہیں غائب معلوم
التعذیب سے فعل مضارع معلوم و مجہول	الجرح سے ماضی مثبت معلوم
الاستبشار سے فعل مضارع منفی معلوم و مجہول	الاخلیلاق سے فعل ماضی مثبت معلوم
	الاتاقل سے فعل ماضی مثبت معلوم

المعاقبۃ سے فعل نہی غائب معلوم المباعدا سے فعل امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ
الصعوبۃ سے فعل مضارع حمد منفی بلم معلوم البصارة سے فعل مستقبل بانون تاکید ثقیلہ معلوم
التجنب سے فعل منفی حمد بلم معلوم و مجہول الاسلحاب سے فعل مضارع مثبت و منفی معلوم

تمرین صیغ سالم

درج ذیل صیغوں کو حل کریں۔

مُسْكِتٌ	لِيُدْهَبَنَّ	مُرْشِدَيْنِ	مُتَقَابِلُونَ	تَتَعَاَبُ
ضَارِبُوا	مُزْدَجِرٌ	يَسْمَعُونَ	يَتَرَبَّصُونَ	اِسْتَعَلَ
وَلِيُمَحِّصَ	تَسْكُنَيْنِ	لَوَاقِحَ	الْمَثَالِجِ	لِيُعْتَسِلَنَّ
يُنْبِتُ	جِبَاهُهُمْ	جَائِمِينَ	اِجْرَامِي	رِجَالًا
لِيَتَفَاخِرَنَّ	مَتَبَاعِدَانَ	اَنْصِتُوا	لَمْ اُخْرِجْ	مَا صَدَّقْتُ
اَبْعَدَ	مَا اَحْتَرَزَنَّ	مَا اَكْرَمْتُ	قَرِيبًا	لِيَقْتَرِبَنَّ
اَنْ تُفَيِّدُونَ	لَوِ اطَّلَعْتُ	الْحَبِيبُ	الْجَبَّارُ	لَنَسْفَعًا
لَا تُزْخَرِفْ لَنْ تُعَدَّ بُوا	لَا يُدْكِرَنَّ	مُتَزَنِدِقَانِ	رُهْبَانُ	
كَذَّبُوا	لَنْ اَعْتَمِدَ	مُصْرَحَاتِ	مُنْخَرَجَانِ	اِصْفَرَّتَا
لَا اِنْفِصَامَ	مُدْهَامَتَانِ	وَلِيَتَلَطَّفُ	اَفْلَمْ يَدَّبُرُوا	مُنْطَلِقُ
لَا تُنْبِتَنَّ	مُنْصِتَاتِ	لَتَعْبِرَنَّ	قَنْطَرَتُمَا	يَصَدَّعُونَ
مُفْرَقَتَانِ	اِقْتَرَبْتُ	مُنْتَحَبَاتِ	مَا اسْتَغْفَرُوا	لَا يُعْثِرَانِ
عَقَدْتُمْ	اِطَهَّرَ	الْمَزْمَلِ	فَاَصَدَّقَ	اِنَّا قَلَّ
لَتُرْغَبَنَّ	مُصَدِّقِينَ	رَغْبًا	الْمُدْتِرِّ	لِتُدَكَّرَنَّ

مُحْضَرَانِ	لِيَكْتَسِبَنَّ	لَا نُلْتَهَبُ	تَنْتَخِبُونَ	لَنْ تَسْتَكْمِلَا
لَمْ تَبْعِدِي	مُغْتَسِلٌ	لَا يُكْرِمَنَّ	لَنْ نُرْشِدَ	اسْتَمَعُوا
بُورِكَ	خَلَائِفَ	الْخَبَائِثُ	الْخَزَائِنُ	الْخَوَالِفُ
عَسِكِرُ	يَسْتَبْشِرَانِ	يُزْعِفِرْنَ	مَا حَقَّرْنَا	مُتَعَاتِبِينَ
لِيَتَقَابِلَنَا	لِيُصْرِحَنَّ	مُسْتَحْقِرٌ	لَمْ تَسْتَخْلِفْ	اسْتَبْشِرْ
اسْلَنْطُحُ	لِيَتَقَابَلَا	فَارْهَبُونَ	تَعَاقَبُ	زَعِيمٌ
حَبَائِلُ	الْحِجَارَةُ	حَدِيثٌ	مُدَّخَلًا	رُكْبَانًا
تُكْذِبَانِ	مُقَرَّبٌ	مُبْرَنْشِقُونَ	لَا نُعَذِّبُ	الْحِرَاسُ
قَبَائِلَ	زُلْفَى	مِحْرَابٌ	الرَّاكِعِينَ	الْحَرِيقُ
لِيَتَبَخَّرَنَّ	مُتَعَصِّفِينَ	تَتَعَرَّفُ	لَمْ نَتَحَاسَدْ	تَسْرِبَلْنَا
اسْتَبْشِرْ	لَتَقَابَلَانِ	لَمْ أُصْرِحْ	مَا تَعَاتَبْنَا	انْفَصَلَ
لَنَسْتَفْسِرَنَّ	الْمُتَصَدِّقِينَ	مَا انْخَرَقُوا	تَبَاعَدْتَ	مَسْفُوحًا
أَجْسَامُهُمْ	السَّمْعُ	جِفَانٍ	الْجَلِيلُ	مُزْدَجِرٌ
تَفَاخَرُوا	لَا تُحْقِرُوا	لَنْ أَتَحَاسَدَ	انْخَرَقَ	لَا يَتَبَاعَدُونَ
لَمْ تَنْقَلِبْ	لِيُصْرِحَنَّ	يُنْخَرِقَانِ	لَا اسْتَبَدِلْ	مَا اذْرَنْقَنَا
كَرِهْتُمُوهُ	سُجْدًا	بَسَطَتْ	إِبْلَعِي	لَا تَحْمِلْنَا
أَرْشَدَنَّ	أُسْخِرَجَ	لَمْ تَلْتَهَبْ	لِيُبْعِدَنَّ	أَذْهَبِي
الْكَوَاثِرُ	جَمِيعٌ	جَمَالَاتُ	جُنُودٌ	أَحْبَارُهُمْ

ہدایت برائے استاذ محترم: (۱) طلبہ کو ابتداء سے اب تک پڑھائے گئے تمام اسباق کی گردانوں کی خوب مشق کرائی جائے صیغوں کی پہچان اور ترجمہ کی تمرین کروائی جائے، قرآن مجید اور احادیث سے مختلف صیغے نکلوائے جائیں۔
 (۲) صیغوں کی مکمل پہچان کے بعد صیغوں میں جاری شدہ سالم کے قوانین کی بھی پہچان کروائی جائے۔

تدریب

تصریفات ابواب و صیغ

مہموز

تمرین تصریفات ابواب

مہوز الفاء

ذیل میں مہوز الفاء کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف
صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر باب نصر ثلاثی مجرد مہوز الفاء

الأخْذُ (لینا)

الأرْشُ (دیت دینا)

الأفْوْلُ (چاند کا غروب ہونا)

الأرْوْكَ (تنگ ہونا)

مصادر باب ضرب ثلاثی مجرد مہوز الفاء

الأجْمُ (سخت گرم ہونا)

الأبْسُ (ملامت کرنا)

الأزْلُ (سختی میں پڑنا)

الأجْرُ (مزدوری دینا)

مصادر باب سمع ثلاثی مجرد مہوز الفاء

الأبْصُ (خوش ہونا)

الأبْدُ (وحشی ہونا)

الأجْلُ (دیر کرنا)

الإثْمُ (گناہ کرنا)

مصادر باب فتح ثلاثی مجرد مہوز الفاء

الأروخ (مشتاق ہونا)

الأبْهُ (سمجھ جانا)

الالوہة (عبادت کرنا)

مصادر باب کرم ثلاثی مجرد مہوز الفاء

الأسالة (نرم ہونا)

الارُب (عقل مند ہونا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید فیہ مہوز الفاء

الإیذان (آگاہ کرنا)

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ مہوز الفاء

التابید (ہمیشہ رکھنا)

التاجیل (مدت مقرر کرنا)

مصادر باب مفاعله ثلاثی مزید فیہ مہوز الفاء

المؤاجرة (کرایہ پر لینا)

المؤخذة (سزا دینا، گرفت کرنا)

المؤاربة (مقابلہ کرنا)

المؤازرة (مدد کرنا)

مصادر باب تفعّل ثلاثی مزید فیہ مہوز الفاء

التاثر (اثر قبول کرنا)

التاسف (افسوس کرنا)

التامل (غور و فکر کرنا)

التابط (بغل میں لینا)

مصادر باب افتعال ثلاثی مزید فیہ مہوز الفاء

الائتدام (روٹی کو سالن سے کھانا)

الائتشار (متاثر ہونا)

الائتزار (تہبند باندھنا)

الائتلاف (جڑنا)

مصادر باب استفعال ثلاثی مزید فیہ مہوز الفاء

الاستیجار (اجرت پر رکھنا)

الاستیناف (نیا کرنا)

الاستیمان (امن طلب کرنا)

مصادر باب انفعال ثلاثی مزید فیہ مہوز الفاء

الانطار

تمرین تصریفات ابواب مہوز العین

ذیل میں مہوز العین کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف
صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر باب ضرب ثلاثی مجرد مہوز العین

الرِّئَاسَةُ (سردار ہونا) الزُّئُرُ (شیر کا دھاڑنا)

مصادر باب سمع ثلاثی مجرد مہوز العین

التَّافُقُ (غصہ سے بھر جانا) الْبُؤْسُ (گوشت کا خراب ہونا)

الدَّأْصُ (خوب موٹا ہونا) السَّأْدُ (پینا)

مصادر باب فتح ثلاثی مجرد مہوز العین

الْبَاجُ (چلانا) التَّارُ (دھمکانا)

الْبَجَادُ (منہ لگا کر پینا) الدَّأْتُ (بوجھل ہونا)

مصادر باب کرم ثلاثی مجرد مہوز العین

الْبَاسُ (مضبوط و بہادر ہونا) الشَّامَةُ (منحوس ہونا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید فیہ مہوز العین

الاراب (مرمت کرنا) الاستاد (ساری رات چلنا)

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ مہوز العین

التجئف (خوف زدہ کرنا) الترتیس (سردار بنانا)
التلئیم (ٹھیک کرنا) التفئیل (نیک شگون لینا)

مصادر باب مفاعله ثلاثی مزید فیہ مہوز العین

المدائلة (دھوکہ کرنا) المرأسة (لڑائی میں پیچھے رہنا)
الملائمة (موافق ہونا) المسائلة (پوچھنا)

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ مہوز العین

التلثم (جڑنا) التسأل (مانگنا)
التسؤد (بچا ہونا پانی) التراس (سردار بنانا)

مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید فیہ مہوز العین

التراؤف (ایک دوسرے پر رحم کرنا) التساؤل (ایک دوسرے سے پوچھنا)
التضاؤل (کمزور ہونا) التكاؤد (مشکل ہونا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید فیہ مہوز العین

الابتئار (کنواں کھودنا) الابتئاس (غمگین ہونا)
التضاؤل (کمزور ہونا) الارتئاس (سردار بنانا)

مصادر باب استفعال ثلاثی مزید فیہ مہوز العین

الاستذاب (بھیڑیے کی طرح ہونا) الاستتراف (مہربانی کرنے پر آمادہ کرنا)

تمرین تصریفات ابواب

مہوز اللام

ذیل میں مہوز العین کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف
صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر باب ضرب ثلاثی مجرد مہوز اللام

مصادر باب سمع ثلاثی مجرد مہوز اللام

الخطأ (غلطی کرنا)

الصدأ (قابل ملامت کرنا)

المرء (عمدہ ہونا)

البراء (صحت یاب ہونا)

مصادر باب فتح ثلاثی مجرد مہوز اللام

الخشوع (تھک جانا)

الردء (مدگار بنانا)

الختأ (منع کرنا)

الخبجوع (چھپ کے گھر میں داخل ہونا)

مصادر باب کرم ثلاثی مجرد مہوز اللام

الرداءة (خراب ہونا)

البطوء (دیر کرنا)

الجرءة (ہمت کرنا)

الدناءة (گھٹیا ہونا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید فیہ مہوز اللام

الانشاء (پرورش کرنا) الابداء (پیدا کرنا)

الاجطاء (غلطی کرنا) الابرء (بری کردینا)

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ مہوز اللام

التحنئة (مہندی سے رنگنا) التحلئة (روکنا)

التهنية (مبارک باد دینا) التخطئة (غلطی قرار دینا)

مصادر باب مفاعله ثلاثی مزید فیہ مہوز اللام

المدارة (ہٹانا) المخاسأة (ایک دوسرے کو پتھڑ سے مارنا)

المكالاة (نگرانی کرنا) المرافاة (موافق ہونا)

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ مہوز اللام

التنشيء (آغاز کرنا) التفسؤ (پارہ پارہ ہونا)

التحنؤ (مہندی سے رنگا ہوا ہونا)

مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید فیہ مہوز اللام

التراواء (باہم تعاون کرنا) التشانؤ (باہم دشمنی کرنا)

التخاجؤ (دیر لگانا) التخاسؤ (ایک دوسرے کو پتھڑ مارنا)

مصادر باب افتعال ثلاثی مزید فیہ مہوز اللام

الاستلاء (صاف کرنا) الابداء (شروع کرنا)

الانتساء (دور ہونا) الارقزاء (کم ہونا)

مصادر باب استفعال ثلاثی مزید فیہ مہوز اللام

الاستنشاء (تیار کرنا) الاستبراء (برأت طلب کرنا)

الاستنساء (مہلت چاہنا) الاستبطاء (سست سمجھنا)

مصادر باب انفعال ثلاثی مزید فیہ مہوز اللام

الانطفاء (وجھنا) الانكفاء (الثنا)
الانحساء (دور ہونا) الانتماء (ٹوٹنا)

تمرین صیغ مہموز

درج ذیل صیغے حل کریں

أَمِنُوا	أَمِرْتَنَّ	نَهَيْتِكُمْ	خَذُوا
مَسْتَامِينِ	أَنْ يُطْفِئُوا	تَالِيَقَات	
مُسْتَهْزِؤُنَ	مُنْشَى	سَنْقِرُكَ	بَارِئِكُمْ
آثَرُنَ	اسْتَأْجَرْتُ	مَامَنَةٌ	يَسْتَنْبِؤَنَكَ
بَاتِحَادِكُمْ	مُتَّخِذٌ	اِخْرُ	اِيْلَافٌ
اِيَابَهُمْ	مَا بَأَ	وَأْتَمِرُوا	أُوْتَمِنَ
سَلُونِي	اِمْتَلَاتِ		

ہدایت برائے استاذ محترم: (۱) مہوز کی تصریفات میں جہاں جوازی تخفیفات ہو سکتی ہیں ان کا خصوصی اجراء کرایا جائے، جاری شدہ قوانین کی نشاندہی کرائی جائے۔

تدریب

تصریفات ابواب و صیغ

مضاعف

www.bairri.edu.pk

تمرین تصریفات ابواب

مضاعف

ذیل میں مہموز العین کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف
صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر باب نصر ثلاثی مجرد مضاعف ثلاثی

السد (بندرنا)

الحث (ابھارنا)

العد (گننا)

القد (لسبائی میں کاٹنا)

مصادر باب ضرب ثلاثی مجرد مضاعف ثلاثی

الحق (گوشت کا خراب ہونا)

الدیب (غصہ سے بھرجانا)

التمام (پورا ہونا)

القلة (کم ہونا)

مصادر باب سح ثلاثی مجرد مضاعف ثلاثی

اللذاعة (مزیدار ہونا)

الملال (اکتاجانا)

العض (مضبوطی سے تھامنا)

الشلل (مفلوج ہونا)

مصادر باب کرم ثلاثی مجرد مضاعف ثلاثی

الشامة (منحوس ہونا)

البأس (مضبوط و بہادر ہونا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید فیہ مضاعف ثلاثی

الاتلال (کھینچانا)

الابتاث (کاٹنا)

الاتمام (پورا کرنا)

الاجلال (تعظیم کرنا)

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ مضاعف ثلاثی

التبضیضُ (ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا)

التبطُّطُ (عاجز ہونا)

تتیب (ہلاک ہونا)

التتفیف (تف کہنا)

مصادر باب مفاعله ثلاثی مزید فیہ مضاعف ثلاثی

المجادةُ (جھگڑنا)

المجاراةُ (ٹال مٹول کرنا)

المشیارةُ (برائی سے پس آنا)

المزامةُ (تکبر کرنا)

مصادر باب تفعّل ثلاثی مزید فیہ مضاعف ثلاثی

التلُّلُ (تر ہونا)

التجذذُ (ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا)

التجددُ (نیا ہونا)

التجسسُ (ثدہ میں رہنا)

مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید فیہ مضاعف ثلاثی

التبارُ (ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا)

الشَّامَةُ (منحوس ہونا)

التجالُ (عمر رسیدہ ہونا)

التضادُ (ایک دوسرے کی خلا ہونا)

مصادر باب افتعال ثلاثی مزید فیہ مضاعف ثلاثی

الابتذالُ (لینا)

الابتلالُ (تر ہونا)

الاجترارُ (کھینچنا)

الاحتیرازُ (کاٹنا)

مصادر باب استفعال ثلاثی مزید فیہ مضاعف ثلاثی

الاستبدادُ (اپنے آپ کو ترجیح دینا)

الاستتبابُ (ہموار ہونا)

الاستتمامُ (مکمل کرنا)

الاستجدادُ (نیا ہونا)

مصادر باب الافعال ثلاثی مزید فیہ مضاعف ثلاثی

الانبثاٹ (پھیلنا) الانسداد (بند ہونا)

الانبساس (زمین پر پانی بہنا) الانثلال (گر جنا)

مصادر باب فعللۃ رباعی مجرد مضاعف رباعی

المضمضة (کلی کرنا) الذذبذبة (متردد بنا دینا)

مصادر باب تفعلل رباعی مجرد مضاعف رباعی

التذبذب (متردد ہونا)

الفرار سے فعل نہی حاضر معلوم

الذب سے فعل جہ منفی بلم مجہول

المس سے فعل مستقبل مؤکد بالام ونون تاکید ثقیلہ معلوم

المس سے فعل مضارع معلوم

مضاعف ثلاثی باب افعال سے فعل امر حاضر معلوم

مضاعف ثلاثی باب افعال سے فعل مضارع مجہول

مضاعف ثلاثی باب تفعلیل سے فعل جہ منفی بلم مجہول

مضاعف ثلاثی باب تفعلیل سے فعل مضارع معلوم

مضاعف ثلاثی باب مفاعلہ سے فعل امر حاضر معلوم

مضاعف ثلاثی باب مفاعلہ سے فعل ماضی منفی معلوم

مضاعف ثلاثی باب تفعلل سے فعل امر حاضر معلوم

مضاعف ثلاثی باب تفعلل سے اسم فاعل واسم ظرف

مضاعف ثلاثی باب تفاعل سے فعل امر حاضر معلوم

مضاعف ثلاثی باب تفاعل سے فعل ماضی مثبت مجہول

مضاعف ثلاثی باب افتعال سے فعل مضارع مثبت مجہول

مضاعف ثلاثی باب افتعال سے اسم فاعل واسم مفعول

مضاعف ثلاثی باب استفعال سے فعل منفی مؤکد بلن معلوم

مضاعف ثلاثی باب استفعال سے فعل مضارع منفی معلوم

مضاعف ثلاثی باب انفعال سے فعل نہی حاضر معلوم

مضاعف ثلاثی باب انفعال سے فعل امر غائب معلوم

مضاعف رباعی باب تفعلل سے فعل جہ منفی بلم معلوم

مضاعف رباعی باب فعللۃ سے امر حاضر معلوم

تمرین صیغ مضاعف

ذیل میں دیئے گئے کلمات کو اس طرح حل کریں کہ جس سے صیغہ، وزن، حروف اصلی، حروف زوائد، باب، گردان وغیرہ کی مکمل وضاحت ہو نیز صیغے کا اصل اور ادغامات کی وضاحت بھی کریں۔

فَكْبِكُوا	قَرَنَ	فَظَلْتُمْ	دَسَّهَا	لَا نَفْضُوا
فَمَنْ اضْطُرَّ	أَصَلْنَا	أَعَزُّوا	أَعَدَّتْ	هُزِيْ
فَدَمَدَمَ	يُوسُوسُ	عَضُّوا	لَمْ يَتَسَنَّهْ	يُصَبُّ
وَاسْتَفْرَزُ	يُمِدُّكُمْ	يَسْتَعْفِفْنَ	أَنْ يَنْقُضَ	لَمْ يَسْتَحِقُّوا
وَمَا أَهْلًا	أَحَلَّنَا	فَتَرَلَّ	ضَالِّينَ	وَاعْضُضْ
مَنْفَكِّينَ	لَمْ يُصِرُّوا	يَتَسَلَّلُونَ	فَعُلُّوهُ	مَكَّنَا

تدریب

تصریفات ابواب و صیغ

مثال (معتل الفاء)

تمرین ثلاثی مجرد از باب ضرب مثال واوی

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الوزن (تولنا)	الوجدان (پانا)	الولادة (جننا)	الوعظ (نصیحت کرنا)
الوصل (ملانا)	الوقف (رکنا)	الولوج (داخل ہونا)	الورود (آنا)

۲- درج ذیل مصادر سے گردانیں پڑھیں

الولادة سے فعل مضارع مثبت معلوم	الوجدان سے فعل نفی جہد بلم معلوم و مجہول
الوزن سے فعل امر حاضر معلوم	الوعظ سے اسم فاعل اور اسم مفعول

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کا ترجمہ، صیغہ اور گردان بتائیں نیز معلل صیغوں کی تعلیل بھی کریں۔

زُنْ	يَزْنُونَ	مَوْجُودِينَ	لَمْ يَلِدْ	لَمْ يُؤَلِّدْ	لَيُعِظَنَّ
لِيُوعِظَ	يَلْحُجُونَ	قِفَا	مَوْقِفٌ	مَوْلُودٌ	يَرُدُونَ
لَمْ يَزِنُوا	لَمْ يُوصَلُوا	لَأَقْفَنَّ	لَا تَلِجَنَّ	قِفْنَانٍ	مَا وَزَنْتُمْ

تمرین ثلاثی مجرد از باب سمع مثال واوی

۱- درج ذیل مصادر سے صرف صغیر پڑھیں۔

الوجه (دردمند ہونا)	الولع (بہت محبت کرنا)	الولوغ (برتن میں منہ ڈالنا)	الوسع (کشادہ ہونا)
الوبق (ہلاک ہونا)	الوسخ (میلا ہونا)	الوبد (بدحال ہونا)	

۲- درج ذیل مصادر سے گردانیں پڑھیں

الوجه سے فعل ماضی منفی مجہول	الولع سے فعل مستقبل بالام ونون تاکید ثقیلہ معلوم
------------------------------	--

۳- ذیل میں دیئے گئے کلمات کا ترجمہ، صیغہ اور گردان بتائیں نیز معلل صیغوں کی تعلیل بھی کریں۔

لَا تَوَجَلْ	وَجِلُونَ	وَبِقُونَ	تَوَلَّغُونَ	وَجِعْتُمْ	أَوْجَعُ
مَوْبِقٌ	لِيُوبِقَنَّ	لَتُوبِدَنَّ	لَا تَوَجَعِي	وَسِخُوا	مَوْسِخَانٍ

تمرین تصریفات ابواب

مثال واوی

ذیل میں مثال واوی کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں، ان تمام مصادر سے صرف صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر ثلاثی مجرد، باب فتح، مثال واوی

الوضع (رکھنا) الوقوع (گرنا)

الهبة (ہبہ کرنا) الودع (چھوڑنا)

مصادر ثلاثی مجرد، باب کرم، مثال واوی

الوجوبة (بزدل ہونا)

الوثة (نرم ہونا) الوحدة (اکیلا رہنا)

مصادر ثلاثی مجرد، باب حسب، مثال واوی

الوبول (بارش ہونا)

الوبق (ہلاک ہونا)

الومق (محبت کرنا)

الثقة (بھروسہ کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب افعال، مثال واوی

الایجاب (واجب کرنا)

الایقاد (آگ جلانا)

الایضاح (واضح کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب تفعیل، مثال واوی

التوكيد (مضبوط کرنا)

التوفیر (زیادہ کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب مفاعله، مثال واوی

المواصلة (تعلق رکھنا) المواثبة (ایک دوسرے پر چھلانا گ لگانا)

الموادعة (مستقل یا عارضی صلح کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب تفعّل، مثال واوی

التوحد (یکتا ہونا)

التوسط (درمیان میں آنا)

التوقف (ٹھہرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب تفاعل، مثال واوی

التواضع (عاجزی اختیار کرنا) التواعد (ایک دوسرے سے وعدہ کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب افتعال، مثال واوی

الاتصاح (واضح ہونا) الاتساع (فراخ ہونا)

الاتقاد (روشن ہونا)

مصادر ثلاثی مزید، باب استفعال، مثال واوی

الاستیثاق (تصدیق لینا)

الاستیحاء (وحشت محسوس کرنا)

الاستیداء (امانت رکھوانا)

تمرین تصریفات ابواب مثالیاتی

ذیل میں مثال واوی کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے

صرف صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں

مصادر ثلاثی مجرد، باب ضرب، مثال یائی

الیتیم (یتیم ہونا) الیعار (بکری کامیانا)

الیسر (آسان ہونا)

مصادر ثلاثی مجرد، باب سح، مثال یائی

الیتیم (تھکنا) الیسر (آسان ہونا)

الیسن (متغیر ہونا)

الیقظ (بیدار ہونا)

مصادر ثلاثی مجرد، باب فتح، مثال یائی

الینع (پھل کا پکنا) الیفع (بلوغت کے قریب پہنچنا)

مصادر ثلاثی مجرد، باب کرم، مثال یائی

الیتیم (تھکنا) الیسر (آسان ہونا)

مصادر ثلاثی مزید، باب افعال، مثال یائی

الإیباس (سکھانا) الإیسار (مالدار ہونا)

مصادر ثلاثی مزید، باب تفعیل، مثال یائی

التیبیس (خشک کرنا) التیتیم (یتیم بنانا)

مصادر ثلاثی مزید، باب مفاعله، مثال یائی

المیامنة (دائیں طرف لے جانا) المیابسة (تختی سے پیش آنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب تفعّل، مثال یائی

التیقن (یقین کرنا) التیقظ (چوکنا ہونا)

التیمن (برکت حاصل کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب تفاعل، مثال یائی

التیامن (دائیں طرف سے کام کرنا) التیاسر (باہم آسانی کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب افتعال، مثال یائی

الاتباس (خشک ہونا)

مصادر ثلاثی مزید، باب استفعال، مثال یائی

الاستیقاظ (جاگ جانا) الاستیقان (یقین کرنا)

الاستیمان (کسی کو قسم دینا)

درج ذیل مصادر سے مذکورہ گردان کی تمرین کریں۔

الوزن سے فعل مضارع مثبت معلوم الوجدان سے فعل نفی جہد بلم معلوم و مجہول

الولادة سے فعل امر حاضر معلوم الوعظ سے اسم فاعل اور اسم مفعول

الوجع سے فعل ماضی منفی مجہول الولع سے فعل مستقبل باللام و نون تاکید ثقیلہ معلوم

الولوغ سے فعل نہی غائب معلوم الوسع سے فعل نہی حاضر بانون تاکید ثقیلہ معلوم

الوضع سے فعل مضارع معلوم و مجہول الوقوع سے فعل منفی بن معلوم

الهيئة سے فعل امر حاضر مجہول الوداع سے فعل مستقبل باللام و نون تاکید خفیفہ معلوم

الوزن سے فعل مضارع مثبت معلوم الیمن سے صفت مشبہ

تمرین صیغ مثال

ذیل میں دیئے گئے کلمات کو اس طرح حل کریں کہ جس سے صیغہ، وزن، حروف اصلی، حروف زوائد، باب، گردان وغیرہ کی مکمل وضاحت ہونی چاہئے اگر کسی صیغے میں تعلیل ہوئی ہو تو صیغے کا اصل اور تعلیل کی وضاحت بھی کریں۔

وَجِبْ	أَوْ سَمَانَ	لَنْ تَوَحَّدَ	بِقَا	إِذَا اتَّسَقَ
لَا أَتْحُ	وَفَرَّتُمْ	تَوَسَّطُنْ	مَا اتَّقَدَ	مِيسَانَانَ
مَوْثُوقَةٌ	مُوجِبَاتٌ	أَيَقْظُنْ	لَنْ يُوقِدَ	لَمْ تُوضِحْنَ
مُوكَّدَةٌ	لَا تُوفِّرُنْ	مُوَاصِلَاتٌ	لِيَتَوَاعَدَا	لَا وَاطِبِنُ
لَا تُتَوَقَّعُ	مُنَوَّحِدٌ	تَوَاضَعُوا	لَا يَتَسَعَّانِ	مُتَضَحٌّ
الْأَيْتَمُ	يَا عِرَاتُ	يَمِينَانِ	لَا يَسْتَمُونَ	أَيَقْظِي
لَا نَيْتَمُ	لَا يَيْتَمُ	مَيْسِرٌ	لِيَتِيَهَمَانِ	تَيْفَخُنْ
نَيْمُنٌ	أَوْ سُرُوا	يَفْعَتُمَا	فَعِظُوهُنَّ	وَالِدَيَّ
مُتَّصِلِينَ	اسْتَيْقَنَتْهَا	مُتَوَلِّدِينَ	الْوَفَاقُ	الْيَتَامَى
هَبْ لِي	لَا تَدْرِنِي	سَنَسِمُهُ	سَتَجِدُنِي	لَمْ يَلِدْ
أَوْرِثْتُمُوهَا	مُوجِبَاتٌ	عِظِينِي	حَتَّى يَلِجَ	فَوَكَرَهُ
أَوْزِعْنِي	لَا تَهِنُوا	أَقْتَتُ	مُوهِنٌ	وَيَنْعَهُ
الْمَوَالِيدُ	لَا تَصِلُ	لِيَدِي	لَا يَصِفُونَ	رِمُوا
مَوْضُوعَاتٌ	يُوبِقُهُنَّ	لَنْ يَتْرُكَنَّ	دَعُ	لَا تَدْرَنَّ
فَقَعُوا	وَقَفُوا	تُوقِنُونَ	لِلْمُتَوَسِّمِينَ	أَوْ هُنَّ

تدریب
تصریفات ابواب و صیغ
اجوف (معتل العین)

www.uanui.edu.pk

تمرین ابواب و تصرفیات اجوف و اوئی

ذیل میں اجوف و اوئی کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر ثلاثی مجرد، باب نصر، اجوف و اوئی

الذوق (چکھنا)

العود (لوٹنا)

الصوم (روزہ رکھنا)

الدوام (ہمیشہ رہنا)

مصادر ثلاثی مجرد، باب سجع، اجوف و اوئی

السول (چکر آنا)

النوم (سونا)

الخوٹ (ڈھیلے پیٹ والا ہونا)

مصادر ثلاثی مزید، باب افعال، اجوف و اوئی

الاماتة (مارنا)

الاباحة (مباح کرنا)

الاعانة (مدد کرنا)

الاغائة (فریاد کو پہنچانا)

مصادر ثلاثی مزید، باب تفعیل، اجوف و اوئی

التنوير (روشن کرنا)

التطويل (دراز کرنا)

التلويم (بہت ملامت کرنا)

التعويد (عادی بنانا)

مصادر ثلاثی مزید، باب مفاعله، اجوف واوی

المناولة (دینا)
المعاونة (مدد کرنا)
المشاورة (باہم مشورہ کرنا)
المعاودة (عادت بنالینا)

مصادر ثلاثی مزید، باب تفعّل، اجوف واوی

التعود (پناہ میں آنا)
التصور (روشن ہونا)
التلوث (آلودہ ہونا)
التصور (خیال میں لانا)

مصادر ثلاثی مزید، باب تفاعل، اجوف واوی

التجاوز (گذرنا)
التعاون (باہم مدد کرنا)
التشاور (باہم مشورہ کرنا)
التحاور (باہم باتیں کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب افتعال، اجوف واوی

الاحتياج (محتاج ہونا)
الاشتياق (مشتاق ہونا)
الاعتیاد (عادی ہونا)
الاحتیال (حیلہ کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب استفعال، اجوف واوی

الاستعاذة (پناہ چاہنا)
الاستجابة (قبول کرنا)
الاستطاعة (طاقت رکھنا)
الاستفادة (فائدہ حاصل کرنا)

مصادر ثلاثی مزید، باب انفعال، اجوف واوی

الانصیاء (چپکے سے جانا)
الانصیاء (پگھلنا)
الانصیاء (جھکنا)

تمرین تصریفات ابواب

اجوف یائی

ذیل میں اجوف یائی کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف
صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر باب سَمِعَ ثلاثی مجرد، اجوف یائی

البيات (رات کو کوئی کام کرنا)

البيان (واضح ہونا)

البيع (جوش میں آنا)

البياد (غروب ہونا)

مصادر باب سَمِعَ ثلاثی مجرد، اجوف یائی

الخيف (پھیلا ہوا ہونا)

الحيف (بارش نہ ہونا)

الزئيل (جدا ہونا)

الخيص (بہینگا ہونا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید، اجوف یائی

الاحاقة (گھیرنا)

الاذاعة (پھیلانا)

الاخامة (خیمہ نصب کرنا)

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید، اجوف یائی

التحير (حیرانی میں ڈالنا)

التحيش (فوج جمع کرنا)

التخيير (اختیار دینا)

التحيين (وقت مقرر کرنا)

مصادر باب مفاعله ثلاثی مزید، اجوف یائی

المشايحة (جنگ کرنا)

المسايرة (ساتھ چلنا)

	المشايسة (دشمنی کرنا)
	مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید، اجوف یائی
التشیع (شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا)	التشیط (جلنا)
	التغیر (تبدیل ہونا)
	مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید، اجوف یائی
التشیع (مختلف گروہ ہونا)	التذایل (خاکساری کرنا)
	التغایر (مختلف ہونا)
	مصادر باب افتعال ثلاثی مزید، اجوف یائی
الاشتیاط (غصہ سے بھڑکنا)	الامتیاز (جدا ہونا)
	الاشتیاع (شریک ہونا)
	مصادر باب استفعال ثلاثی مزید، اجوف یائی
الاستشاطة (غصہ سے بھڑکنا)	الاستخارة (خیر چاہنا)
	الاستطابة (میٹھا پانی مانگنا)
	مصادر باب انفعال ثلاثی مزید، اجوف یائی
الانصیاح (چٹھنا)	الانسیاح (کشادہ ہونا)

تمرین صیغ اجوف

مندرجہ ذیل صیغوں کو حل کریں

مُبَاحٌ مُمِيتٌ	أَعِثَّ	أَعِنَّا	لَنْ تَدُوْبِي	لَنْ تَصُومِي
لَا تُشِيرَانِ	لَا تَرْتَابُوا	مِتْنَا	بِيعْ	مُرْتَابِيْنَ
مَا أَجَبْتُمْ	مَعِينٌ	الْمَغِيرَاتُ	لَعَائِطُونَ	مَنَاخًا
وَلِيُطَوُّوْا	سِيرُوا	أَبْنَا	مَطَافٌ	كَلْتُمْ
تَدُوْرَتَيْنِ	مَلْنَا	لَمْ نَكْ	بِيضَاءٌ	مَذُوْبٌ
فَلْيَسْتَجِيبُوا	مُسْتَفِدِّينَ	مُحْتَارَاتٌ	أَنْلِي	فُرْتُ
تُدِيرُوْنَهَا	تَعْوِيْدَاتٌ	الْمَغِيْبَاتُ	فَافِيضُوا	فَسَقْنَاهُ
فَكِيدُوْنِي	الْبَوَارُ	لَا يَلِيْتَكُمْ	مَثُوْبَةٌ	الْقِيَوْمُ
فَأَمَاتَهُ	صِيَادٌ	نِيَاحٌ	أَجِبْ	فَلَا تَلُوْ مُوْنِي
بِيَاتًا	الْأَبْيَضُ	لَمْتَنِي	الْقِيَمُ	تَحَاوِرْ كَمَا
تَبِيَانٌ	مُبِينٌ	مَتَابٌ	بِيَاتٍ	مَثَابَةٌ
الْحِيَادُ	الْحَارُ	الْمَحِيضُ	الْخَائِضِيْنَ	أَنْ يَطْوَفَ
حَيْرَانَ	مَحِيضٌ	مُهَانًا	الْمَسَاقُ	فَصْرُهُنَّ
خَيْرٌ	خِيَانَةٌ	لَمْ أُخْنَهُ	خَافُونَ	مَنَاصُ

الْخَيْرَةُ	دَائِرَةٌ	الدِّيَارُ	دِيَارٌ	إزَيْتٌ
الْمَدِينُونَ	رَوَّاحُهَا	يَتِيهُونَ	فَجَاسُوا	مَازَقْنَا
مُرْتَابٌ	مُرِيْبٌ	سَيِّدٌ	سَادَةٌ	أَسَاوِرُ
إطِيرْنَا	لَتَعُودَنَّ	غِيضٌ	إِسْتَكَانُوا	قِيمًا
هَيْنٌ	الْمَطْوَعِينَ	عَيْلَةً	أَلْهِيمُ	إِرْدَادُو
السَّائِحُونَ	مَشِيدٌ	صَيَّبٌ	ضَيَّقٌ	مُطَاعٌ
الْمُسْتَعَانُ	أَلْعِيرُ	مَعِيشَةٌ	مَعَايشُ	عَائِلًا
لِوَاذًا مَلُومٌ	مُلِيمٌ	أَلْمِيْتُ	مَهِيْلًا	فُزٌ
إِسْتَحُوذٌ	يَحِضُنَ	فَلَنْدِيقَنَّ	ذُقُّ	لِتَرْوَلِ
أَنَا	يَهْنُ	فَلْيَصْمِهِ	لَتَبِينَنَّهُ	فَاعِينُونِي

تدرب
تصريفات ابواب وصيغ
ناقص (معتل اللام)

www.bau.edu.pk

تمرین تصریفات ابواب ناقص واوی

ذیل میں ناقص واوی کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر باب نصر ثلاثی مجرد ناقص واوی

البلاء (آزمانا) التلاوة (پڑھنا)

البدو (ظاہر ہونا) الرجاء (امید رکھنا)

مصادر باب سمع ثلاثی مجرد ناقص واوی

الْحُظُوةُ (مرتبہ حاصل کرنا) الْبَهَاءُ (خوبصورت ہونا)

الْحَلَاوَةُ^(۱) (میٹھا ہونا) الشَّقَاوَةُ (بدبخت ہونا)

مصادر باب کرم ثلاثی مجرد ناقص واوی

الْبَدَاءَةُ (بدکلام ہونا) السَّرَاوَةُ (شریف ہونا)

الطَّرَاوَةُ (تروتازہ ہونا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید ناقص واوی

الاعلاء (بلند کرنا) الارضاء (خوش کرنا)

الإحلاء (میٹھا بنانا)

(۱) اس مصدر کی صفت مشبہ حُلُوْ بَرُوْزْنَ فُعِلْ ہے۔

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید ناقص واوی

التخلية (چھوڑنا)

الصَّلوة (دعا کرنا)

التغذية (جہاد کے لیے تیار کرنا)

التغذية (پرورش کرنا)

مصادر باب مفاعله ثلاثی مزید ناقص واوی

المعالجة (بلند کرنا)

المعافاة (برائی سے بچانا)

المعاطاة (دینا)

المعاداة (دشمنی کرنا)

مصادر باب تفعّل ثلاثی مزید ناقص واوی

النبني (بیٹا بنانا)

التفشي (پھیلنا)

التقصي (دورنا)

التقدي (راستے کے بیچ میں چلنا)

مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید ناقص واوی

التعالی (بلند ہونا)

التصابي (کھیل کود کی طرف مائل ہونا)

التلافي (ازالہ کرنا)

الشفاتي (جوان مردی ظاہر کرنا)

مصادر باب افتعال ثلاثی مزید ناقص واوی

الالتهاء (کھیلنا)

الاقتناء (لازم پکڑنا)

الاكتساء (لباس پہننا)

الارتضاء (پسند کرنا)

مصادر باب استفعال ثلاثی مزید ناقص واوی

الاستعلاء (غالب ہونا)

الاستعداد (مدد مانگنا)

الاستعفاء (معافی مانگنا)

الاستغلاء (مہنگا پانا)

مصادر باب انفعال ثلاثی مزید ناقص واوی

الانجلاء (ظاہر ہونا)

الانحناء (ٹیڑھا ہونا)

الانسراء (غم دور ہونا)

الاندعاء (جواب دینا)

تمرین تصریفات ابواب

ناقص یائی

ذیل میں ناقص یائی کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف
صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر باب ضرب ثلاثی مجرد ناقص یائی

الْهَمِيُّ (آنسو بہنا)

الْكَفَايَةُ (کافی ہونا)

الْهَدَايَةُ (رہنمائی کرنا)

الْبُكَاءُ (رونا)

مصادر باب سمع ثلاثی مجرد ناقص یائی

الْبَقَاءُ (ہمیشہ رہنا)

الرَّقِيُّ (چڑھنا)

الدَّنَايَةُ (کبڑا ہونا)

الْفَنَاءُ (معدوم ہونا)

مصادر باب فتح ثلاثی مجرد ناقص یائی

النَّعْيُ (موت کی اطلاع دینا)

النَّهْيُ (منع کرنا)

الرَّعْيُ (چرنا)

الدَّهْيُ (عیب لگانا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید ناقص یائی

الابكاء (رلانا)

الادناء (قریب کرنا)

الابقاء (رحم کرنا)

(۱) اس مصدر کی صفت مشبہ ادنأ بروزن أفعل، ذنی بروزن فَعَلی۔

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید ناقص یائی

التطلیة (گالی دینا)

التطغیة (سرکش بنانا)

التسقیة (خوب پلانا)

مصادر باب مفاعله ثلاثی مزید ناقص یائی

المراعاة (کسی کے حق کا خیال رکھنا)

المساقاة (ایک دوسرے کو پلانا)

المکافاة (بدلہ دینا)

مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید ناقص یائی

التجني (توڑنا)

التکري (سونہ)

التحمي (پرہیز کرنا)

التجمي (اکھٹا ہونا)

مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید ناقص یائی

التنافي (ایک دوسرے کو دفع کرنا)

التحامي (بچنا، پرہیز کرنا)

التسابي (ایک دوسرے کو قید کرنا)

مصادر باب افتعال ثلاثی مزید ناقص یائی

الاكتراء (کرایہ پر لینا)

الانتهاء (آخر کو پہنچنا)

الاكتفاء (قناعت کرنا)

الالتقاء (ملنا)

مصادر باب استفعال ثلاثی مزید ناقص یائی

الاستسقاء (پانی مانگنا)

الاستلقاء (چت لیٹنا)

الاستقراء (تلاش کرنا)

تمرین صیغ ناقص

ذیل میں دیئے گئے کلمات کو اس طرح حل کریں کہ جس سے صیغہ، وزن، حروف اصلی، حروف زوائد، باب، گردان وغیرہ کی مکمل وضاحت ہونیز اگر کسی صیغے میں تعلیل ہوئی ہو تو صیغے کا اصل اور تعلیل کی وضاحت بھی کریں۔

بَاغ	مُبْدِيهِ	بَادِي الرَّأْيِ	بَادُونَ	الْبَادِ
بُكِّيًّا	بَاقٍ	أَبْقَى	بَعِيًّا	إِبْتِغَاءً
جَازٍ	مَجْرَاهَا	جَثِيًّا	فَالْتَالِيَاتِ	مُتَبَلِّغِينَ
مُعْتَدٍ	أَحْوَى	حَامٍ	حَفِيًّا	أَحْصَى
صَلِيًّا	الْعَافِينَ	بِالْعَرَاءِ	أَخْزَى	مُحْيِي
الدَّاعِ	أَدْعِيَاءَ كُمْ	مُسْتَحْفٍ	خَطَايَا	مُخْزِي
الذَّارِيَاتِ	الدُّنْيَا	دَانَ	دَعَوَاهُمْ	جَنِيًّا
رُخَاءً	مَرْجُوًّا	مَرْجُونَ	مُتَبَلِّغِكُمْ	رَائِيًّا
مَنْ يَعْشُ	يَشْفِينِ	الْبِغَاءُ	مُرْسَاهَا	رَوَاسِي
الرَّعَاءُ	رَاعُونَ	مَرْضِيًّا	رَضِيًّا	تَرَاضٍ
سُدَى	الزَّانِي	الزَّانِي	زَكِيًّا	لَرَقِيكَ
الْأَعْلُونَ	شَيْءٌ	شِقْوَتَنَا	سَمِيًّا	سَرِيًّا
لَعَالٍ	صَالُونَ	تَصْلِيَّةً	مُصَفَّى	أَشْيَاءُ
الْعُلَا	عَدُونَ	الْعَادُونَ	عِتِيًّا	طَرِيًّا
عَمِينَ	عَمُونَ	أَعْمَى	الْمُتَعَالِ	عَلِيُونَ

عُمِي	غَوَاشٍ	الْمَغْشَىٰ	غَنِيٌّ	مُغْنَوٌ
فَتَىٰ	مُفْتَرٍ	مُفْتَرُونَ	فَرِيًّا	الْقُصَوَىٰ
قَصِيًّا	غَزَىٰ	نَجٌّ	نَسِيهَا	يَهْدِي
الْقَالِينَ	لِلْمُقْوِينَ	التَّلَاقِ	لَاقِيهِ	الْعُلَيَّا
الْمُتَلَقِيَانِ	مُلَاقٍ	الْمُلَقِينَ	الْمُمْتَرِينَ	أَمْعَاءَ
أَمَانِيٌّ	مُنْجُوكٍ	نَجِيًّا	الْتِنَادِ	نَادِيكُمْ
نَدِيًّا	مَنْسِيًّا	نَسِيًّا	مُنْتَهُونَ	فَلَاهَادِي
لَهَادٍ	إِنْ تُبَدُّوا	بَلُونَا	لَتُبَلُونَ	الْعَلِيُّ
أَتَبُونَ	إِبْنٍ	تَتَلُونَ	جَرِيْنَ	تُجْزُونَ
يُحَلُونَ	تُخْرِنَا	يُحْلُ	لَمْ أَدِرْ	بَادُونَ
يَوْمَ يَدْعُ	يُدْنِينَ	لِيَرْضَوْكُمْ	يَزِينُ	شَقُوا
قَدِصَعَتْ	تَعْنُوا	أَعْطُوا	لَتَعْلَنَّ	لَتُغْرِيَنَّكَ
يُغْوِيكُمْ	لَا تَسْتَفْتِ	لَا فَتَدُوا	أَقْتَدَهُ	أَتْلُ
وَالْعَوَا	الْقَوَا	الْقِيهِ	تَمَنُونَ	نَجْنَا
رَاعِنَا	أَرْجُهُ	تَفَادُوهُمْ	لَمْ يُقَالَ	يُحْيِينَ
الْمُهْتَدِ	أَذَادَعَانَ	نُضِلِهِ	الْمَاعُونَ	مَرْجُواً
لَتُبَلُونَ	تَلِيَتْ	خَلَوْا	لَا يَرْجُونَ	الْأَعْلُونَ
التَّالِيَاتُ	تَعْفُوا	دُعُوا	تَدْعُونَ	بَدَتْ
الْعُلَيَّا	الْأَعْلَىٰ	عَالِيْنَ	نَكْسُوهَا	أَكْسُوهُمْ

ہدایت برائے استاذ محترم: طلبہ سے سالم، مثال، اجوف اور ناقص کے صیغوں کی مزید پہچان اور تمرین کے لیے قرآن مجید اور احادیث سے مختلف صیغے نکلوائے جائیں۔

تدریب

تصریفات ابواب و صیغ

لفیف (معتل بحرین)

تمرین تصریفات ابواب

لفیف مفروق

ذیل میں لفیف مفروق کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر باب ضرب ثلاثی مجرد لفیف مفروق

الو ما (اشارہ کرنا)

الوعی (یاد کرنا)

الوفاء (پورا ہونا)

الوکعی (مشک کا منہ بند کرنا)

مصادر باب سمع ثلاثی مجرد لفیف مفروق

الوناء (کمزور ہونا)

مصادر باب حسب ثلاثی مجرد لفیف مفروق

الوری (چقماق کا آگ دینا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید لفیف مفروق

الایفاء (پورا کرنا)

الایحاء (دوسروں سے چھپا کر بات کرنا)

الایداء (ہلاک کرنا)

الایراء (چقماق سے آگ نکالنا)

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید لفیف مفروق

التوریه (پوشیدہ رکھنا)	التوخیه (طلب کرنا)
التوصیه (کسی کام کا عہد لینا)	التوشیہ (منتقش کرنا)

مصادر باب مفاعله ثلاثی مزید لفیف مفروق

المواذاة (کسی کے سامنے ہونا)	الموافاة (کسی کے پاس اچانک آنا)
المواخاة (بھائی چارہ قائم کرنا)	المواداة (کسی سے خون بہا لینا)

مصادر باب تفعل ثلاثی مزید لفیف مفروق

التوخی (کام کرنے کا ارادہ کرنا)	التوحي (جلدی کرنا)
التوجی (پاؤں گھسنا)	التولی (ذمہ داری سنبھالنا)

مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید لفیف مفروق

التوانی (کوٹاہی کرنا)	التواصي (آپس میں تلقین کرنا)
التوازي (ایک دوسرے کے برابر ہونا)	التواری (چھینا)

مصادر باب افتعال ثلاثی مزید لفیف مفروق

الایتشاء (ٹوٹی ہوئی ہڈی درست ہونا)	الایتقاء (پرہیز کرنا)
------------------------------------	-----------------------

مصادر باب استفعال ثلاثی مزید لفیف مفروق

الاستیصاء (وصیت قبول کرنا)	الاستیعاء (پور لینا)
الاستیحاء (خبر گیری کرنا)	الاستیلاء (غالب آنا)

تمرین تصریفات ابواب

لفیف مقرون

ذیل میں لفیف مقرون کے مختلف ابواب سے متعدد مصادر درج ہیں ان تمام مصادر سے صرف صغیر و صرف کبیر کی تمرین کریں۔

مصادر باب ضرب ثلاثی مجرد لفیف مقرون

النَّيَّةُ (ارادہ کرنا)

الْحَوَايَةُ (مشمول ہونا)

الرِّوَايَةُ (نقل کرنا)

الْغَىُّ (انتہائی گمراہ ہونا)

مصادر باب سمع ثلاثی مجرد لفیف مقرون

الْحَوَى (سبزی مائل سیاہ ہونا)

السَّوَى (با کردار ہونا)

الْهَوَى (چاہنا محبت کرنا)

التَّوَى (ہلاک ہونا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید لفیف مقرون

الانواء (کسی کا دور ہونا)

الاهواء (گرنا)

الاغواء (بہکانا)

مصادر باب تفعیل ثلاثی مزید لفیف مقرون

التروية (سفر میں پانی ساتھ لے جانا)

مصادر باب مفاعله ثلاثی مزید لفیف مقرون

المساواة (برابری کرنا) المناواة (دشمنی کرنا)

مصادر باب تفعّل ثلاثی مزید لفیف مقرون

التحوي (سمٹنا) التروي (سیراب ہونا)

مصادر باب تفاعل ثلاثی مزید لفیف مقرون

التغاوي (بتکلف جاہل بننا) التهاوي (ایک دوسرے پر گرنا)

مصادر باب افعال ثلاثی مزید لفیف مقرون

الاحتواء (جمع کرنا) الارتواء (سیراب ہونا)

الاهتواء (اشارہ کرنا)

مصادر باب استفعال ثلاثی مزید لفیف مقرون

الاستغواء (گمراہ کرنا) الاستهواء (کسی کو حیران کرنا)

مصادر باب انفعال ثلاثی مزید لفیف مقرون

الانهواء (چیز کا اوپر سے نیچے کرنا)

تمرین صیغ لفیف

درج ذیل صیغوں کو حل کریں

تَوْصِيَةً	مُوصٍ	وِعَاءٌ	الْمُؤْفُونَ	مُتَوَفِّئِكَ
الْآتَقَى	مِيقَاتٍ	الْمُتَّقُونَ	وَاقٍ	وَالٍ
وَلَّى	الْمَوْلَى	مَوْلِيَهَا	وَصَّى	أَوْفٍ
وَقْنَا	لَيَوْلُنَّ	يُوعُونَ	لِ	إِحْوِ
فِ	مَطْوِيَّاتٍ	قَوَا	سَوِيَّتُهُ	مُسَاوَاةٌ
فَوَلَّوْا	الْإِعْوَاءُ	فَاعْيَاهُمْ	مُحْيِي	أَوْفَى
طَوَاةٌ	لِنَا	لَاتِنِيَا	تُورُونَ	فَتَرَضَى
الْمُسْتَوَى	يُوصَى	لَأُبْقِيَنَّكُمْ	لَاتِلِ	نُوحِيهَا
يَنْتَقُونَ	مُلَاقُونَ			

ہدایت برائے استاذ محترم: طلبہ سے سالم، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کے صیغوں کی مزید پہچان اور تمرین کے لیے قرآن مجید

اور احادیث سے مختلف صیغے نکلوائے جائیں۔

تمرین صیغ ابواب مختلفہ

فَاَزَّرَهُ	أَرِنَا	إِمَّا تَرِينَ	أَلَمْ تَرَ
فَلَا تَأْسَ	حَتَّى تَفِيءَ	جِنًّا	أَتُوا
سَاوِي	يَنَّاوَنَ	أُوتِيْتُمْ	جَاءُوا
	مَطَايَا	لِكَيْلَا تَأْسُوا	أَنْ تَبُوءَ

تم کتاب تدریب الصرف بتوفیق اللہ تعالیٰ و عونہ

فالحمد لله على ذلك